

WWW.PAKSOCIETY.COM



پاک

کن جوہا کھلا

WWW.PAKSOCIETY.COM



کچھ نہ مانگوں گا جو اس بات کو پورا کر دے

جو نہیں میرا الہیٰ، اسے میرا کر دے


عمر بھر تیرے خیالوں میں یونہی کھویا رہوں

تجھ کو بھولوں تو یہ قدرت مجھے اندھا کر دے

یہی اند نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے بلا خراس تک پہنچ ہی گئی تھیں۔

”آپ چلیں اماں! میں آتا ہوں۔“ اس نے قدرے سنہلے ہوئے کہا اور آنسو صاف کرتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا۔ ان کے برابر پہنچ کر اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیں نم تھیں انہوں نے اس کے سر پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا اور پھر مخاطب ہوئیں۔

”بس تیری لمبی عمر اور دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی ہوں ہمیشہ اللہ پاک تجھے خوش آباد پھلٹا پھولتا اور مسکراتا رکھے آمین۔“ وہ قدرے بے بسی سے مسکرایا تھا۔ وہ ماں ہیں اور ماں کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کہ دنیا کے سات سمندر اس میں سما سکتے ہیں۔



”مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کی سوچ پڑکتے آرام سے کہتے ہیں کہ اسلام ایک ٹاپک ہے جب کہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام ایک عمل ضابطہ حیات ہے جسے اللہ پاک نے بنی نوع انسان کے لیے ایک کامل دین کے طور پر پسند فرمایا ہے اور جس کے اپنی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے نعمت ہونے کی تصدیق اپنے کلام قرآن مجید میں کی ہے۔“ ایک بہت مہذب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔

وہ کچھلے ایک گھنٹے سے اسلامک اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کی کینٹین میں بیٹھا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کر کر کے اس کا پارہ ویسے ہی ہائی ہو رہا تھا اور یہ جملے تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگا گئے تھے اس نے پلٹ کے

لگا ہیں اٹھ کر بار یا غلاف کعبہ پر گئی تھیں اور پھر جھک سکنیں، کوئی خواہش تھی یا حسرت جو دل میں بھانس کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی تھیں اور آنسو زمین پر گرے تھے۔ ایک عکس نمایاں ہوا تھا وہ جس دربار میں تھا وہاں کیوں اور کیا کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا وہاں تو صرف عطا کیا جاتا تھا وہ جو ایک بار نگاہ میں جگمگائے زبان پر آجائے یا پھر دل میں ہو۔

”وہ تو قادر مطلق ہے ہر غیب سے واقف، کوئی شے کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں چاہے وہ پاتال ہو سمندر کی گہرائی میں موجود گوہر انمول یا پھر دل میں چھپا ہوا کوئی راز۔ وہ تو سب جانتا ہے سب کچھ تو پھر.....“ اس نے زمین پر گرنے والے آنسوؤں میں نمایاں عکس کو دیکھا تھا اور وہ ایک دم صرف پانی کے قطرے رہ گئے تھے۔ وہ عکس وہ سایہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شدت غم سے آنکھیں بند کر لی تھیں غالباً وہ اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے آنسوؤں کو جذب کرنا چاہتا تھا۔

”احمد بیٹا!“ اس کی اماں نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ”اٹھو بیٹا! کب سے یہاں بیٹھے ہو جلدی چلو فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔“ اس کی اماں اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ وہ کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہیں یہاں آئے بیس دن ہو گئے تھے وہ تقریباً ہر سال ہی اپنے بیٹے کے ساتھ حج و عمرے کے لیے وہاں آیا کرتی تھیں۔ تین دن پہلے ہی انہوں نے حج ادا کیا تھا اور آج ان کی پاکستان کے لیے فلائٹ تھی آج فجر کی نماز اورتناشتے سے فارغ ہو کر وہ خانہ کعبہ آ گئے تھے مگر اب تک

دیکھا۔ دو لڑکیاں کیتھین میں اس کے پیچھے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی چادروں میں ٹھیس ایک براؤن اور دوسری بلیک کلر کی چادر میں۔ براؤن چادر والی لڑکی کا رخ اس کی جانب تھا لیکن بلیک چادر والی لڑکی کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس نے غور سے دیکھا اسے بلیک کلر کے بند شوژ ان شوژ تک لگتی بلیک چادر۔ اس نے چادر کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک لاکر اس طرح پن کیا ہوا تھا کہ اس کی کلاسیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ صرف لمبی مخروطی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ سفید دو دھیا رنگت۔

”ہوضہ..... نان سنس!“ اس نے حد درجہ ناگوار انداز میں بلند آواز میں کہا تو وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ اس نے دیکھا اس کی بلیک چادر ماتھے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے لاکر پن کی ہوئی تھی اس کی سیاہ نور آنکھوں میں کچھ حیرت نمایاں تھی وہ بنا پلکیں جھپکائے دیکھتا رہا۔ اب وہ لڑکی اپنا رخ اپنی دوست کی جانب کر چکی تھی اور اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کچھ دیر پہلے چھا جانے والی روشنی ایک دم معدوم ہو گئی ہو اس نے بھی رخ موڑ لیا تھا مگر اس کا دھیان ان چیزوں میں ہی رہ گیا تھا اور اب اسے اس جگہ سے جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی تھی یہی اس نے کیتھین کے مین ڈور سے عدیل کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس کا غصے سے بُرا حال ہو رہا تھا اس نے کہا جانے والی نظروں سے عدیل کو دیکھا۔


”آئی ایم سوری!“ اس پر نظر پڑتے ہی عدیل نے دروازے سے ہی معذرت کرنی شروع کر دی تھی۔
 ”دفع ہو جاؤ۔“ جان نے بہت غصیلے لہجے میں کہا۔
 ”اے یار کیا کروں وہ میم میمونہ نے روک لیا تھا“
 فائلنگ کروانے کے لیے اسی میں مصروف ہو گیا تھا اسی لیے وقت کا دھیان نہیں رہا۔“ عدیل نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور سامنے دھکی کر بیٹھ گیا۔

”وقت کا یا میرا دھیان؟“ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
 ”اچھا ہا! اب معاف بھی کر دو یہ بتاؤ تم نے کچھ کیا؟“ عدیل نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔

”نہیں! اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ تم یہ بتاؤ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟“ اس کا غصہ اب کچھ کم ہوا تھا اور عدیل نے اسے بتانا شروع کیا تھا کہ وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں ہونے والے میلاد کا فوٹو سیشن اس سے کرانا چاہتے ہیں۔ عدیل کی بات سنتے ہوئے اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ایک بار پھر اس بلیک چادر والی لڑکی پر جا رہی۔ وہ اب اپنی ٹیبل سے اٹھ کر باہر کی جانب جا رہی تھی وہ پھر سے اس کا تجزیہ کرنے لگا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو چادر کا اتنا بھرپور استعمال کرتے دیکھا تھا یہاں تک کہ اس کے ہال اور کپڑے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔

”یہ بلیک چادر والی لڑکی کون ہے؟“ اس نے اسی پر نگاہیں لٹکائے عدیل سے پوچھا اور عدیل نے فوراً اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔

”اے وہ تو میری کلاس میٹ اور نیکسٹ ڈور میجر عمیرہ عباد ہے۔“ عدیل نے کچھ بڑبڑا جوش لہجے میں بتایا۔



زنائے دار تھپڑ سے کمرے کی فضا گونج گئی تھی۔
 ”بکو اس بند کرو اگر اب تم نے اپنے منہ سے ایک بھی کفریہ کلمہ نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔“ غصے کے سبب ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر رقیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے انہیں مخاطب کیا تھا۔

”بس کریں اتنا غصا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔“ وہ تملاکران کی طرف پلٹے۔

”غصہ نہ کروں، آپ کہہ رہی ہیں رقیہ بیگم؟“ ان کا غصہ مزید بڑھ گیا اور پھر انہوں نے پلٹ کر کمرے کے وسط میں کھڑے دانیال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔

”کتنا ناز تھا ہمیں اپنے اس بیٹے پر کتنی امیدیں تھیں ہمیں اس سے..... لیکن کیا کیا اس نے خاک میں ملا دیں ہماری ساری خواہشات سارے خواب، کیا کیا نہیں سوچا تھا ہم نے اور اس نے..... انہوں نے جملہ اچھورا چھوڑ دیا اور

احسانات کیونکر تجھے یاد رہ سکتے ہیں۔“ انہوں نے شدید غصے اور طنز سے بھرپور لہجے میں کہا۔ وہ گردن جھکائے کھڑا سنتا رہا۔

”اس کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے تجھ پر کہ اس نے تجھے وہ قلب و ذہن عطا کیا جس میں اس کا کلام محفوظ ہو۔ تجھے وہ آواز دی جس سے تو اس کی ثناء کر سکتے اور تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے شرک کر رہا ہے۔“ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔

”میں کافر نہیں ہوں۔“ دانیال نے کچھ تیز لہجے میں کہا۔

”ایک کافرہ سے محبت کفر نہیں تو اور کیا ہے۔“ انہوں نے تلملا کر کہا۔

”وہ کافرہ نہیں اہل کتاب ہے۔“ وہ کچھ سنبھل کر مخاطب ہوا۔ ”وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے جو اس کی قوم پر اور اس سے پہلے نازل ہوئیں۔“ دانیال کا لہجہ پُر عزم تھا۔

”اور اللہ کی وحدانیت پر؟“ افتخار صاحب نے طنز سے بھرپور لہجے میں پوچھا اور دانیال خاموش ہو گیا۔

”جوڑی اللہ کو کیا وادانا ماننے کے بجائے اسے صاحبِ اولاد کہتی ہو نونوؤ باللہ.....“ وہ شدتِ غم سے غڑھال ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں۔

”ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کا ایمان جانچا جاتا ہے تاکہ اللہ ان میں جو صاحبِ ایمان ہیں اور ان میں جو صاحبِ ایمان ہونے کا صرف گمان کرتے ہیں فرق واضح کر دے۔“ انہیں ایک مجذوب کا کہا ہوا قول یاد آیا تھا اور بہت غم سے انہوں نے دانیال کو دیکھا تھا۔ آج انہیں وہ ان لوگوں کی فہرست میں نظر آ رہا تھا جو صاحبِ ایمان ہونے کا صرف گمان رکھتے ہیں مگر حقیقتاً نہیں ہوتے۔ وہ آج اسے ان لوگوں کی فہرست میں دیکھ رہے تھے جن کا عمل ان کے دلوں میں نفاق کا سبب بنتا ہے اور وہ نفاق انہیں ان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے یعنی وہ لوگ جو حق بات کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ

غصے سے بھرپور نگاہ دانیال پر ڈالی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ ”کہہ دیں اس سے یہ جو چاہتا ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔“ انہوں نے رقیہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا۔

”میں نے فیصلہ کر لیا ہے ابا جان! میں اپنی محبت کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو مجھے جتنا ماننا ہے مار لیں مگر میں اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔“ اس نے جتنی انداز میں کہا۔

”بے حیا بے شرم! وہ آگے بڑھ کر اس پر ٹوٹ پڑے دو تین چھپنمزید اس کے گالوں کو سرخ کر گئے اور وہ زمین پر گر پڑا تھا منہ کے بل اور اس کے ہونٹ سے خون بہہ نکلا تھا۔

”کیا ہو گیا ماں باہا۔“ شور کی آواز پر برابر کے کمرے سے نالکد بھاگ کر وہاں آئی اور دانیال کو فرش پر پڑا دیکھ کر وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نالکد کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔

”چھوڑ دو اس مرد کو موت ہاتھ لگا داسے۔“ وہ پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے ایک بار پھر دانیال کی جانب بڑھے تھے مگر نالکد اور رقیہ بیگم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔

”چھوڑ دو مجھے آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔“ وہ آہستہ سے باہر ہو رہے تھے۔

”ہاں مار ڈالیں مجھے نہیں جینا چاہتا میں ایسی زندگی جو میری مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں۔ آج تک آپ کی ہر بات مالی اور حکم کی تعمیل کی اور آپ سے بدلے میں صرف یہ امید رکھی کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اسے آپ لوگ قبول کریں۔“ وہ الماری کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔

”تو نے خدمت کی ہماری ہمارا کہنا مانا تو احسان نہیں کیا ہم پر۔“ افتخار صاحب اب اپنے آپ کو نالکد اور رقیہ بیگم سے چھڑانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ”بچپن سے لے کر شعور کی دہلیز تک ہم نے بھی اسی طرح تیری خدمت کی۔ ماتوں کو جاگ کر تیری دیکھ بھال کی مگر بھی تجھ پر احسان نہیں جتایا مگر تو یہ کیسے سمجھ سکتا ہے تو تو وہ انسان ہے جو اپنے رت کے احسانات کا منکر ہو رہا ہے تو ہمارے

دیں۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے لگا لیا مگر خود اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ دانیال اور نائلہ ہی تو ان کی گل کائنات تھے اور آج رقیہ بیگم کی وہ گل کائنات تھیں، انہیں ہور ہی تھی۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات پکڑے اور اماں اور نائلہ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی اسے بہت عزیز تھیں اور وہ کسی بھی طور ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔

”کیا چینی کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی آپ اسے قبول نہیں کریں گے؟“ اس نے پُر امید نگاہوں سے افتخار صاحب کو دیکھا۔ ”مجھے یقین ہے وہ میری خاطر دین اسلام قبول کر لے گی۔“ اس کا لہجہ پر امید تھا۔

”مجھے افسوس ہے دانیال کہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی تم دین اسلام کو نہیں سمجھتے یہ وہ دین نہیں جو محض کسی انسان کی خاطر قبول کیا جائے۔ یہ دین جس پاک رب کا پسندیدہ دین ہے یہ صرف اسی کی محبت کو محسوس کر کے قبول کیا جائے تو کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اہل مانا جاتا ہے ورنہ نہیں اگر محض ایسا ہوتا کہ کلمہ پڑھنے سے لوگ مسلمان ہو جاتے تو اللہ پاک سورۃ بقرہ میں منافقوں کے لیے اتنی طویل آیات کو بیان نہ کرتا اور نہ ان کی منافقت پر عذاب دردناک کی وعید سناتا۔ اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور جس دل میں ان کی محبت نہ ہو اس دل میں ایمان کیونکر ہو سکتا ہے۔“ ان کے لہجے میں کڑواہٹ اور غصے کے طے جلے تاثرات تھے۔

”لو ان کاغذات کو اور دفع ہو جاؤ کل کا سورج نکلنے سے پہلے۔“ انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب سے پھیر لیا تھا۔

”میں کہیں نہیں جاؤں گا۔“ دانیال نے ہمت کر کے کہا۔

”کیسے نہیں جاؤ گے تم تمہیں جانا پڑے گا۔ میں ایک مرتد کو اپنے گھر میں ہرگز جگہ نہیں دے سکتا۔“ انہوں نے حتمی انداز میں کہا۔

”پلیز ابا جان! آپ کو مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ

سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سورج کے اس بے رجا سلسلے نے افتخار صاحب کی ہمت تو زدی گئی اور وہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے ان کو یوں گرتا دیکھ کر نائلہ اور رقیہ بیگم کی چہنچیں نکل گئی تھیں۔ ان کی چیخوں پر دانیال نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور بھاگ کر ان کی جانب آیا تھا۔

”نہیں! میرے قریب مت آنا۔“ انہوں نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب آنے سے روکا۔ ”میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کیا تم اس لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے؟“ ان کا لہجہ حد درجہ مایوس تھا۔

”نہیں!“ وہ لٹی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔

”ٹھیک ہے جیسا تم چاہو۔“ وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے برابر سے گزر کر الماری کی طرف بڑھنے تیوں ہی کچھنا کچھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے اور جب وہ واپس پلٹے تو ان کے ہاتھ میں کچھ ستاویزات تھیں۔

”تم نے تو بیٹے ہونے کا فرض نہیں بھایا دانیال! مگر میں اپنے باپ ہونے کا فرض ضرور بھانوں گا تا کہ روز محشر تم میرا گریبان نہ تھام سکو۔“ انہوں نے بہت بجھے بجھے لہجے میں کہا۔

”یہ ہماری زمینوں کے کاغذات ہیں جو میں نے بہت پہلے ہی تمہارے نام کر دیئے تھے۔ یہ کاغذات لو اور ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں اس گھر سے اور ہم سب سے تمہارا ہر رشتا آج ختم ہو گیا ہے۔“ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ان کی یہ بات ان تیوں کو ہی اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔

”یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار!“ رقیہ بیگم تڑپ کر بولیں۔

”یہی بہتر ہے رقیہ بیگم!“ انہوں نے تھکمانہ لہجے میں کہا۔ ”بھلے ہوئے دلوں کو ہدایت دینا اللہ عزوجل کا کام ہے ہم اپنے طور پر جس حد تک سمجھا سکتے تھے سمجھا چکے اب آخرت میں ہم اس کے جوابدہ نہیں ہوں گے۔“ ان کی یہ بات رقیہ بیگم کو بے حال کر گئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو

ہی نہیں کر پار ہا تھا کہ وہ اب تک اندھیرے میں جی رہا تھا یا پھر اب اندھیرے میں آ گیا تھا۔



”کیا ہو گیا ہے دانی! کچھ تو بتاؤ تمہاری یہ خاموشی میرا دل دہلا رہی ہے۔“ جینی نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ دانیال کو اس کے گھر آئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تھا مگر وہ خاموشی سے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور ہاتھوں پر سر لکائے بیٹھا تھا۔ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔

”کیا ہوا ہے دانیال؟“ جینی نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اب کی بار دانیال نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔

”ہم ابھی شادی کر سکتے ہیں؟“ دانیال کا انداز سوالیہ تھا۔

”اس وقت؟“ جینی نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تشویش کٹا ٹارا بھرے تھے۔

”یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ جھٹڑا ہوا ہے تمہارا تمہارے والدین سے؟“ جینی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا جس پر جگہ جگہ انگلیوں کے نشان تھے اور ہونٹ کے کونے سے خون رس رہا تھا۔

”جینی میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے صرف تمہارے لیے اب تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔“ اس نے جینی کا ہاتھ تھام کر بڑی طرح روتے ہوئے کہا۔

”ریلیکس دانیال! میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی لیکن مجھے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟“ جینی نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا اور وہ دھیمے لہجے میں اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔

”میں نے کہا تھا ناں دانی! تم سے تمہارے والدین کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ یہی تو فرق ہے تمہارے اور میرے دین میں۔ ہم کسی کو باؤنڈ نہیں کرتے مگر مسلمان یہی کرتے ہیں۔ اس سے ملو اس سے مت ملو

لیں جتنا ماننا ہے ماریں مگر گھر سے نہ نکالیں۔ میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گا‘ مر جاؤں گا۔“ شدتِ غم سے دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔

”لگتا ہے تم ایسے یہاں سے نہیں جاؤ گے“ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ نائلہ اور رقیہ بیگم روتی بیٹتی ان کے پیچھے بھاگی تھیں۔

”آپ یہ کیا کر رہے ہیں انکار؟ ایک ہفتے کا انتظار تو کر لیں ایک ہفتے کے بعد نائلہ کی شادی ہے۔ لوگ پوچھیں گے دانیال کا تو ہم کیا کہیں گے؟“ انہوں نے پیچھے آتے ہوئے جی لہجے میں کہا۔

”کہہ دینا مریا ہمارا بیٹا!“ انکار صاحب کے لہجے سے غم و غصہ عیاں تھا۔ ان کے اس جملے کے ساتھ ہی نائلہ اور رقیہ بیگم کے قدم ہٹم گئے تھے۔ وہ دانیال کو لیے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ التجائیں کر رہا تھا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا تھا۔ وہ اونٹھے منہ سیڑھیوں پر گرا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پھوٹ جانے والی کاغذات کی فائل بھی کھینچ کر اسے ماری تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ کتنی ہی ویہکتے کی حالت میں اس اندھیرے میں بیٹھا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ جسے ماں باپ نے بے تحاشا شفقت اور محبت دی تھی۔ چھوٹی بہن جس پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ اپنی ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرنا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فائل تھامے وہ اندھیرے میں ہی چل پڑا اور یک دم ہی اس کا ذہن شیطان کے شکنجے میں آ گیا تھا۔

”کیا دیا اس دین نے مجھے یہ انعام ملا مجھے حافظ قرآن ہونے کا۔ نہیں ماننا میں ایسے دین کو جس میں انسان کی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ جس میں صرف نفس کشی ہے اور کچھ نہیں کچھ بھی نہیں۔“ اس کا نفس غیر محسوس طور پر نکال ہو گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور آستینوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس وقت اندھیرے میں چلتے ہوئے وہ اندازہ

جیسے ساحل سے نکلنا اور لوٹنے والی لہریں اپنے ساتھ ساحل پر لکھے ناموں کو منادتی ہیں۔

”دانیال! شادی سے پہلے تمہیں اصطباغ (Baptism) عیسائی کرتے وقت دیا جانے والا غسل لینا پڑے گا جسے عام زبان میں پتسمہ بھی کہتے ہیں۔“ جینی نے دھیمے دھیمے کہا تھا۔ دانیال نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔

”بابا تمہارا باہر روٹ کر رہے ہیں اور تمہیں چرچ کے پادری کے پاس لے جائیں گے اور وہ تمہیں پتسمہ دیں گے۔“ جینی نے مسکرا کر تفصیل بتائی تو وہ اب بھی خاموش ہی رہا اور جینی اسی طرح مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جینی کے قادر اور چرچ کے پادری کے ساتھ ایک نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ اسے کچھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے یہاں کیوں لائے تھے۔

”مائی ڈیئر سن!“ چرچ کے پادری نے اسے مخاطب کیا۔ ”آج تم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو۔ یہ ایک بہت پاک غسل ہے اس پتسمہ کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا اور چیزز کرائسٹ کو دل سے تسلیم کرنا کہ بے شک وہ خداوند خدا ہیں۔ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔“ پادری نے بہت تقدس کے ساتھ ان جملوں کو ادا کیا تھا مگر اس کے یہ جملے دانیال کو ہلا گئے تھے جسے وہ کل تک شرمک کہتا تھا آج وہ اسے قبول کرے گا۔ بہت بڑی حقیقت اس کے سامنے تھی مگر وہ خاموش ہو گیا۔ نہر سے نکلنے کے بعد پادری نے اس کے گلے میں صلیب باندھی اور کہا تھا۔

”آج تم ہمارے مذہب میں داخل ہو گئے ہو آج سے تمہارا نام ڈینی ہے۔“ پادری کا لہجہ مسرت سے بھرپور تھا۔ جینی کے قادر نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔



چرچ میں داخل ہوتے ہوئے اسے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی تھی مگر جینی کی طرف دیکھتے ہی وہ بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت شادی کے لیے جینی اس کی بہن پیرنٹس اور کچھ عزیزوں کے ساتھ چرچ میں موجود تھا۔ وہ دونوں قادر کے

اس سے شادی جائز اس سے ناجائز ہے۔ وہ اپنا وقت تمام بے کار سوچوں میں ضائع کرتے ہیں۔“ جینی نے نفرت اور حقارت سے بھرپور لہجے میں کہا اور دانیال نے سر جھکا دیا تھا۔ ”خیر چھوڑو داناں بابا گھر پر ہی ہیں میں انہیں تمہارے آنے کے بارے میں بتانی ہوں تم اتنے میں اپنا حلیہ درست کر لو۔“ جینی چیخڑ سے اٹھتے ہوئے بولی اور اسے ایک کمرے میں بھیج کر وہ اپنے والدین کے پاس چلی آئی تھی کچھ دیر بعد جینی کے ساتھ اس کے والدین سامنے بیٹھا تھا۔

”ڈیئر سن! جینی نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے بہت افسوس ہوا تمہارے پیرنٹس کے رویے کے بارے میں جان کر۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب کیا کیا جاسکتا ہے جب کوئی سمجھتا ہی نہ چاہے۔“ جینی کی ہما اس سے کہہ رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا جب کہ جینی اس کی چیخڑ پر ہاتھ رکھے ساتھ ہی کھڑی تھی۔


”ہمیں تم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کل صبح ہی تمہاری شادی کرا دیں گے لیکن پہلے تم اسے یہ بتاؤ کہ شادی کے بعد تم ہماری بیٹی کو کہاں رکھو گے گھر تو تم چھوڑ چکے ہو؟“ جینی کے قادر نے اسے مخاطب کیا۔

”ہم لوگ شہر چلے جائیں گے میرے پاس جائیداد کے کچھ پیریز ہیں انہیں بیچ کر میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر لوں گا آپ اس بات سے بے فکر رہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو بھوکا نہیں رکھوں گا۔“ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی جینی کے قادر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔

وہ رات اس نے جینی کے گھر میں ہی گزاری تھی۔ صبح جینی نے آ کر اسے بیدار کیا تھا سات بج چکے تھے شاید یہ اس کی زندگی کی پہلی صبح تھی جب اس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی نہ ہی صبح بیدار ہونے کی دعا پڑھی تھی نہ کلمہ اور نہ دو در شریف۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا پچھلی رات کا کوئی زخم نہ اس کے دل پر تھا اور نہ جسم پر۔ ہر زخم ایسے مٹ گیا تھا

آگے کھڑے تھے وہ ہاتھ میں ہاتھ لیے دانیال سے مخاطب تھے۔


”میرے بیٹے ڈینی! کیا تم جینی کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرتے ہو؟“ اس نے مسکرا کر جینی کو دیکھا اور پھر کہا۔
 ”ہاں میں تسلیم کرتا ہوں۔“ اس کے بعد فادر نے جینی سے بھی یہی پوچھا اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا وہ بہت خوش تھی اور خوشی اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔



شادی کے فوراً بعد ہی وہ بس اسٹاپ کے لیے نکلے تھے۔ دانیال وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکتا چاہتا تھا۔ جینی کے پیرش نے بہت اصرار کیا تھا کہ پر مگر وہ نہیں مانا تھا۔ جینی نے اس کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد بس میں بیٹھے تھے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دانیال کی نظر ایک بزرگ مجذوب پر پڑی تھی وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔

”حق اللہ..... موجود اللہ! سب کا خالق تو اللہ کرم کرے گا۔ اے بچہ! اس مجذوب کی یہ بات یاد رکھنا جس نے تمام جہانوں کے مالک کو پالیا اس نے کچھ نہیں کھویا لیکن جس نے اسے گنوا دیا اس نے تو کچھ پایا ہی نہیں۔ نا اس دنیا میں نا آخرت میں۔“

”ڈینی! جینی نے اسے پکارا اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور جب دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا وہ مجذوب کہیں نظر نہیں آیا اس کا ذہن الجھا گیا تھا۔
 ”کیا کہہ رہا تھا وہ مجذوب!“ اس نے ذہن پر زور دیا مگر اسے یاد نہیں آیا تھا۔ بس چل پڑی اور اس کی زندگی کے ایک نئے اور انجانے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔



وہ ایک گھنے جنگل میں کھڑا تھا چاروں طرف صرف لمبے اور گھنے درخت تھے اور ان کے ان قدر گھنے ہونے کے سبب ہی اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس پر ایک عجیب وحشت بر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اندھیرے نے

سب اسے اپنا وجود بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے حلق کے بل چیخنا شروع کیا مگر کوئی ہوتا تو اس کی مدد کھاتا دور تک سنا نا اور گہری خاموشی تھی۔ اس نے چلنا شروع کیا تاکہ اپنے طور پر اس جنگل سے باہر نکل سکے۔ اسے اب اپنے سامنے دو راستے نظر آ رہے تھے ایک بالکل تاریک جب کہ دوسرا کسی حد تک روشن۔ اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اس راستے پر چلتے ہوئے وہ مسلسل خدا کے بیٹے خداوند خدا کو یاد کر رہا تھا اور راستے کے اختتام پر پہنچ کر وہ حیران رہ گیا وہ ایک تنگ گلی میں کھڑا تھا۔ یہ مشکل اس گلی میں سے گزر کر جب باہر نکلا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ ایک بار پھر اس گھنے جنگل میں ہی تھا وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک بار پھر چیخنا شروع کر دیا۔

”کوئی میری مدد کرے۔“ اس پر خوف کی کیفیت ظاہر کی ہونے لگی تھی۔ ”کے خداوند! میری مدد کر..... او جیز زامیری مدد کر..... او میرے خدا! میری مدد فرما.....“ غیر محسوس طور پر اس کے لفظ بدلنے لگے اور پھر اس کے منہ سے اچانک ہی نکلا تھا۔

”اے میرے اللہ! میری مدد کر۔“ اس جملے کے ساتھ ہی اس کے کالوں سے وہی بُر وقار مردانہ آواز نکلائی جو بچپن سے وہ ہمیشہ خواب میں سنتا آیا تھا۔

”اللہ اکبر..... اللہ اکبر (بے شک اللہ سب سے بڑا ہے)۔“ اس بُر وقار آواز کے لفظوں کا ترجمہ کوئی اسے بتا رہا تھا ایک بہت مہذب نسوانی آواز وہ پہچانتا تھا اس آواز کو۔ ایک بار پھر وہی لفظ اس کے کالوں سے نکلے تھے اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ بھی اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس آواز کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر ہاتھ ہٹاتے ہی ایک بہت تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ”میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے۔“ یہ جملہ بھی دوبار پڑھا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا اور اب کی بار وہ دیکھ پایا تھا۔ سرنا پیر سفید چادر میں برس بدشہرہ لوری جیکر کی مردوں

ملنے اس کے ڈی پارٹمنٹ گیا تھا۔ گھر آ کر سو گیا تھا اور پھر اٹھنے کے بعد سیدھا چرچ آیا تھا یک دم ہی اس کی ذہن میں وہ نوری پیکرا بھری تھی جس کی پیروی اس نے کی تھی اور جس کے ساتھ ان جادوئی لفظوں کو دہرایا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی یقیناً یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔

”کیا سوچ رہے ہو جان؟“ فادر جوزف نے اس کا بازو دیکڑ کر اسے ہلایا اور وہ ہڑبڑا گیا تھا۔

”ک..... ک..... کچھ نہیں۔“ وہ بڑی طرح ہکلا یا۔
 ”مم..... میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔“ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس نے کیوں فادر جوزف کو اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا۔

”تم میرے ساتھ آؤ۔“ فادر جوزف اسے بوسے سے باہر لے آئے اور سینٹرل دیوار پر لگے جیز کے بڑے سے پتلے کے سامنے کھڑا کر کے اسے صلیب دی اور ناکیدا کہا تھا۔

”تم ہمیشہ اسے یا تو کہیں رکھ کر بھول جاتے ہو یا پھر یہ تمہارے گلے سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ صرف تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے میں نے بھی صلیب پہنی ہے میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم صلیب نہیں پہنتے ہو اسی لیے آج یہ ہوا ہے۔“ انہوں نے اس کے گلے میں صلیب باندھتے ہوئے قدرے خفیف لہجے میں کہا اور جان نے نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ انہیں یہ سمجھانے سے قاصر تھا کہ وہ جب بھی اس صلیب کو پہنتا ہے اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے اور وہ بے فرار ہو کر اسے فوج کر اپنے گلے سے پھینک دیتا ہے۔

”میں آج ہی تمہاری ماما سے بات کروں گا کہ صلیب کے معاملے میں تم پر سختی کریں۔“ انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور وہ خاموشی سے سر جھکائے چرچ سے باہر آ گیا۔

”یہ سب کچھ صرف اس خواب کی وجہ سے ہوا ہے لیکن میں نے اسے کیوں دیکھا خواب میں؟“ کار میں بیٹھتے اس کے ذہن میں وہ خواب گردش کر رہا تھا بیک ویو میں اس کی نظر اپنے گلے میں پڑی صلیب پر پڑی اس نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر تقویت محسوس کرنے کی کوشش کی مگر

نوری پیکر کا رخ اس کی جانب نہیں تھا وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس رستے کی جانب بڑھ رہی تھی جسے خود اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ نوری پیکر جہاں قدم رکھ رہی تھی وہ رستہ وہاں سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔

”میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“ وہ خود کو اس کے پیچھے ان جملوں کو دہراتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سحر زدہ انداز میں وہ اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ نوری پیکر اسے کہاں اور کیوں لے جا رہی تھی۔ بس وہ صرف یہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ نوری پیکر اسے جس راستے پر لے جا رہی تھی وہ راستہ منزل کی طرف جاتا تھا اس نے دیکھا وہ اب اس کی جانب پلٹ رہی تھی۔ وہی پرنورا نکھیں اس کے روبرو تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں اور پھر کھل گئی تھیں وہ وہیں بیٹھا تھا چرچ کے Confession Box میں۔ (چرچ میں موجود ایک کمر جہاں عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق جیز کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں)۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ ہر رات وہاں آیا کرتا تھا تاکہ جیز سے دن بھر میں کی جانے والی غلطیوں کی معافی مانگ سکے۔ وہ ابھی کچھ سمجھنے کے لائق ہوا ہی تھا کہ کنفییشن بوسے کا دروازہ کھلا اور فادر جوزف حیران و پریشان اندر داخل ہوئے تھے۔

”کیا ہوا فادر؟“ وہ حیرت سے سمجھتے ہوئے بولا۔
 ”وہ ہوا جو آج تک نہیں ہوا مائی سن؟“ ان کے لہجے میں خوف تھا۔ ”تمہاری جلائی ہوئی تمام کینڈلز بجھ گئیں جیز نے آج تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔“ ان کے لہجے میں خوف اب بھی تھا۔

”کیا.....؟“ جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔
 ”جان مجھے یہ بتاؤ آج تم سے ایسی کون سی بڑی غلطی ہوئی ہے جو جیز تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔“ انہوں نے متشکر انداز میں پوچھا۔ جان سوچنے لگا وہ صبح عدیل سے

سنا یا کرو زمین پر رحم کھاؤ تاکہ وہ اپنے رب کے حکم سے تم پر رحم کرے۔“ عبیرہ نے جائے نماز تہ کرتے ہوئے کہا۔
”احمد بھائی آئے ہیں۔“ عالی نے ذومعنی انداز میں کہا۔

”ک..... ک..... کیا.....؟“ وہ بُری طرح ہکلائی۔
”کیوں آئے ہیں؟“ عبیرہ نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔
”آپ خود ہی پوچھ لیں۔“ عالی نے حد درجہ بے فکری سے کہا۔

”تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔“ عبیرہ کا لہجہ ڈبٹے والا تھا۔ تبھی اس نے دروازے پر احمد کو کھڑا دیکھا بلیک گلر کی ڈریس پینٹ اور اس پر قدرے شوخ گلر کی شرٹ۔

”میں اندر آ سکتا ہوں۔“ اس نے عبیرہ سے اجازت مانگی اور عبیرہ نے اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ منگنی کے بعد وہ پہلی بار اس کے روبرو کھڑا تھا۔ عبیرہ کے خاموش رہنے پر عالی مخاطب ہوئی تھی۔

”احمد بھائی! آپ کو تو اب کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب تو آپ کو پکاسر ٹیکسٹ مل گیا ہے کیوں آپ؟“ عالی نے بہت شوخ لہجے میں کہا تو وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔

”عالی بیٹا! آپ میرے لیے ایک کپ چائے بنا لائیں۔“ اس نے عالی کو مخاطب کیا اور وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب وہ عبیرہ کی جانب متوجہ تھا۔ سفید چادر نماز کے انداز میں باندھے وہ زمین پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔


”آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اماں اور بابا دونوں ہی گھر پر نہیں ہیں۔“ اس کے لہجے میں گھبراہٹ کا رنگ نمایاں تھا۔

”یہ ٹھیک نہیں ہے عبیرہ! ایک سال پہلے منگنی کے بعد جب میں اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ گیا تھا تب بھی آپ سے ملنے کی خواہش لیے ہی چلا گیا تھا اور اب واپس آیا ہوں تو بھی آپ میرا حال دریافت کرنے کے بجائے مجھے واپس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ آپ نے مجھے تکلیف

ہمیشہ کی طرح اسے جھجلاہٹ ہوئی تھی اور اس نے صلیب کوچ کرڈیش بورڈ پر ڈال دی تھی۔

”کون ہے وہ؟ ایک انسان یا پھر لوری مخلوق! کیوں میں نے اس کی ہیروئی کی..... کیوں؟“ اسے غصہ آ رہا تھا۔
”وہ وہی تھی وہی جس کی ایک نظر نے میرے پورے وجود کو ہلایا تھا۔ وہی عبیرہ عباد۔“ اس نے حد درجہ نخوت سے سوچا تھا۔ وہ لڑکی جس کے نام کے سوا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا وہ چند لمحوں کے لیے آئی اور اس کی سالوں کی ریاضتوں کو برباد کر گئی تھی۔ اس نے غصے سے اسٹیرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔

”عبیرہ عباد!“ اس نے دانت پیس کر کہا اور کار اشارت کر دی۔



”میرے سجدوں میں کہیں ملاوٹ نہیں ہے میرے مالک! میں نے جب بھی سر جھکایا ہے پورے اخلاص کے ساتھ صرف تیری ہی عبادت کی ہے تیری محبت اور عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جسے تو نے پسند فرمایا اسے اختیار کیا اور جسے ناپسند کیا اس سے دور ہی رہی ہوں میں۔ میں بے حد گناہ گار ہوں میرے مالک! لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے مولا کہ میں آپ کی اوزا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب گاروں میں ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں اللہ پاک جو آپ کے نزدیک صالح اور متقی ہیں۔ میں ان میں سے ایک ہونا چاہتی ہوں جن کی طرف آپ روزِ محشر متہمس نگاہ ڈالیں گے۔“ تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے تھے اسے سجدہ میں دعا مانگتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سجدے کی جگہ لیٹی ہو رہی تھی۔

”آپا..... آپا.....“ پھولی سانس کے ساتھ عالی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عبیرہ نے سجدہ سے سر اٹھا کر گھور کر دیکھا اور عالی کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں خوف کے سبب۔

”کتنی بار کہا ہے اس طرح ہاتھوں کی طرح بھاگتی ہوئی

دی ہے۔“ احمد نے ناراضی کا اظہار کیا۔
 ”میرا وہ مطلب نہیں تھا۔“ اس نے اب پہلی بار اس
 کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ”مجھے معاف کر دیں۔“
 عیبرہ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔
 ”آپ بیٹھیں پلیز۔“ عیبرہ نے چیئر کی جانب اشارہ

کیا۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کمرے میں
 فرنیچر کے نام پر صرف ایک چیئر تھی جائے نماز رکھنے کا
 ایک دیک تھا جو سامنے والی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ کچھ فلور کوشنز
 تھے جو کھڑکی کے ساتھ رکھے ایک فرنیچر بیڈ پر بہت سلیقے
 سے رکھے۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اس کی نگاہیں اب بھی
 زمین پر تھیں وہ مسکرا دیا۔
 ”مجھے دیکھنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا عیبرہ!“ اس

جملے پر عیبرہ نے نگاہیں اٹھائی مگر حیا کے سبب وہ دوبارہ
 جھک گئی۔ ”اگلے مہینے ہماری شادی ہے آپ کو پتا ہے ناں
 عیبرہ!“ عیبرہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ ”اسی لیے میں آپ
 سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں آپ جانتی ہیں عیبرہ!
 میں ایک براڈ مینڈ ڈلڑا کا ہوں اور میرا سرکل ایک ڈاکٹر کی
 حیثیت سے بہت بڑا ہے۔ میرا ٹھکانا بیٹھنا بہت پالی کلاس
 سوسائٹی میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سمجھنے کی
 کوشش کریں گی۔“ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور عیبرہ بہت
 زیادہ تشویش کا شکار ہوئی تھی آخر ایسا کیا کہنے والا تھا وہ جو
 اتنی تمہید باندھ رہا تھا۔

”آپ مذہبی لڑکی ہیں اچھی بات ہے انسان کو کسی حد
 تک ہونا بھی چاہیے۔ مگر مجھے آپ کا اتنی بڑی بڑی ٹینٹ
 نما چادریں پہننا ہانگن بھی پسند نہیں۔“ اس کا یہ جملہ عیبرہ
 کے دل پر آری چلا گیا تھا۔

”اگر آپ اس حلیے میں میرے ساتھ پارٹیز میں
 جائیں گی تو میرے کو لیکرز میرے جوئیئر اور سینئر سب ٹینٹس
 گے مجھ پر اور مجھے شکی مزاج کہیں گے اور یہ میرے لیے
 بہت انسٹینگ ہوگا۔“ عیبرہ غیر یقینی نگاہوں سے اسے دیکھ
 رہی تھی۔ امریکہ جانے سے پہلے تک تو اسی عیبرہ کا چادر
 پہننا اچھا لگتا اور آج وہ اپنی ہی بات سے پھر گیا تھا۔

”مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھنے میں کچھ وقت لگے
 گا مگر امریکہ جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
 میں نے وہیں سنٹل ہونے کا سوچا ہے۔“ عیبرہ دیکھ سکتی تھی
 اس کی ہر بات میں صرف ”میں..... میں“ تھا۔ اسے خود
 سے غرض تھی اور کسی کے جذبوں کی کوئی پروا نہیں تھی۔


”ماحول بدلنے سے دل نہیں بدل جاتے۔ میرا دل
 صرف ایک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
 میں دھڑکتا ہے۔ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی
 جاؤں رہوں گی میں انہی کی تابع فرمان۔“ عیبرہ نے حتی
 لہجے میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی اس کا یہ
 رویہ احمد کو بہت برا لگا تھا۔



پورے کمرے میں معطر فضا تھی۔ میروٹن کلر کا بہت
 فائن ڈیزائن کا کارپیٹ بچھا تھا دیواروں پر جا بجا خانہ کعبہ
 اور مسجد نبوی کی تصویریں آویزاں تھیں۔ دیواروں کے
 ساتھ لکڑی کے ٹیلف رکھے تھے جن میں مختلف دینی
 کتابیں اور قرآن پاک کی تفاسیر رکھی تھیں۔ وہ گلاس ٹیبل
 کے دوسرے طرف بیٹھی تھی اس کے سامنے بڑی سی کرسی پر
 ایک بہت معزز شخصیت پروفیسر خالد عباسی بیٹھے تھے۔ ان
 کی عمر ستر کے لگ بھگ تھی ان کے چہرے پر بہت نور تھا۔
 اس کے برابر والی کرسی پر اس کی دوست بیٹھی تھی پروفیسر
 صاحب نے یک بارگی ان دونوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ سینے
 پر باندھتے ہوئے اسے کہا۔

”پڑھو لا الہ الا اللہ۔“ اس نے نرمناک پلکوں اور بھیجے
 لہجے میں پڑھا وہ جو اللہ کی وحدانیت پر مبنی تھا۔ ”محمد رسول
 اللہ“ انہوں نے جملہ مکمل کیا۔ اس نے لڑکھرائی زبان سے
 مکمل کیا اور اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ کر بے تحاشا روئی تھی۔
 وہ جانتی تھی اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے اب وہ
 ہر تنگ نظری اور بد نظمی سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اب وہ اس
 دین کا حصہ بن گئی ہے جو امن و سلامتی اور کاملیف کا مرکز
 ہے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آنسو صاف کیے اب
 اس کے چہرے پر سکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے

نم پلکوں اور منگھور لگا ہوں سے پہلے اپنی دوست اور پھر
 برویفر صاحب کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر
 مسکرائے تھے۔



آدی آدی سے ملتا ہے
 دل مگر کم کسی سے ملتا ہے

ایک بہت خوب صورت آواز پورے ماحول کو اپنے سحر

میں لیے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا ایک
 عرصے کے بعد وہ غزل کی کسی محفل میں شرکت کر رہا تھا
 بلیک تھری پیس وڈوائٹ شرٹ۔ گول میز کے گرد لگی چیئرز
 میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ کی دونوں چیئرز
 خالی تھیں۔ میبل کی دوسری طرف اس کے کچھ کولیگز اور
 دیگر بیٹھے تھے سب ہی لوگ گفتگو میں مجھتے مگر وہ ہمیشہ
 کی طرح اپنی خاموش طبع کے سبب آج بھی منظور نظر تھا
 کتنی ہی نگاہیں اس پر جمی تھیں مگر خود اس کی نگاہیں کہیں اور
 تھیں کہیں بہت دور۔


بھول جانا ہوں میں تم اس کے
 وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے
 ”ستم“ اس کا ذہن بھنگا۔ ”نہیں! ہرگز نہیں“ میں
 ایسے انسان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی جو اللہ سے محبت
 نہیں رکھتا۔ ”ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی اور اس
 کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
 آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا
 رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے

اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ ماحول میں سات رنگ
 بکھیر رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ دور رکھی کری پر بیٹھی تھی
 وہاں اب ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اذان بنا پللیں
 جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا پللیں جھپکنے کا
 انجام وہ وہاں نہیں ہوگی۔

روح کو بھی مزا محبت کا
 دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے
 اس کے لب ابل رہے تھے وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر کیا؟ وہ

کے رو برو ہے۔
 ”سر کیا ہوا“ آپ کو نیندا آ رہی ہے۔“ اس کے لب ابلے
 نے اسے ہلایا تو اس نے دھیمے سے آنکھیں کھولی تھیں
 اس کے سامنے رکھی وہ کرسی اب خالی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا
 ہوا اب وہاں ایک پلی بھی رکنا اس کے لیے مشکل تھا وہ
 اسے ہر جگہ ہی تو یاد آتی تھی۔ ایک وہی تو تھی جسے وہ خانہ
 کعبہ کے رو برو کھڑے ہو کر بھی نہیں بھولتا تھا۔ وہاں سے
 لے کر کار میں بیٹھنے تک اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھا۔
 ”یہ کیسی منافقت ہے میرے مالک! یہ کیسی منافقت
 ہے تیرا بندہ ہو کر میں میں اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ تیری
 محبت میں خیانت کر رہا ہوں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں
 سوچنا چاہتا نہیں یاد رکھنا چاہتا میں اسے لیکن پھر بھی وہ یاد آتی
 ہے اتنی ہی شدت سے۔“ کار اب مین روڈ پر آ گئی تھی۔
 سردیوں کی رات تھی اسی لیے سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا۔
 ”میں خالصتاً آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں مگر وہ مجھے
 ایسا نہیں کرنے دیتی۔ وہ میرے دل میں میری روح پر
 قابض ہے یا تو اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجیے یا
 پھر..... یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بنا
 دیجیے۔“ ایک دم روڈ کے دوسری طرف سے ایک کار نمودار
 ہوئی تھی سامنے سے آنے والی کار کی رفتار بہت تیز تھی۔
 اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا تھا ورنہ وہ اس کی کار
 سے بڑی طرح ٹکراتی خود اس کی کار پیڈیسٹرین کراسنگ پر
 چڑھ گئی تھی پیچھے سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی وہ فوراً
 کار سے اترا تھا۔ وہ کار ایک درخت سے ٹکرائی تھی دروازہ
 کھلا تھا اور ایک دلہن کار سے باہر نکل رہی تھی اس کی
 چوڑیاں لوٹ کر کلائیوں میں گھس گئی تھیں۔ وہ نیم بے

ہوشی کی حالت میں اوندھے منہ پڑی تھی اذان تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے سیدھا کیا تھا اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اذان اپنی جگہ نمودرہ گیا تھا۔



”ہم اس دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں کسی بھی شے پر نظر ثانی اور غور و فکر کر لیں، ہمیں ہر شے میں ہر منظر میں اس کی قدرت اس کی شانِ کریمی رحمت و نعمت اور عظمت و بزرگی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔ وہی پاکیزہ ہستی جس کا نام ہر انسان کے دل کی دھڑکن میں دھڑکتا ہے وہی جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی اللہ عز و جل! جو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے جس کا نام بڑا مبارک ہے۔ جس کا علم نہ تو محدود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی معیار ہے اس کی ذات ہر ربانی سے منزہ (پاک) ہے۔ وہ اپنی صفات اور اوصاف میں سب سے برتر و اعلیٰ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے جب کچھ نہ تھا اور ہمیشہ رہے گا جب کچھ نہ ہوگا۔“

وہ کوزیڈرو سے گزر رہا تھا جب اس کے کانوں سے وہی آواز لگرائی تھی جس نے اس کی زندگی اٹھل پٹھل کر دی تھی عبیرہ عباد کی آواز۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوزیڈرو خالی تھا۔ بھی اس کی نگاہ ایک کلاس کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ بہت دھیمے سے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ وہ بورڈ کے سامنے کھڑی تھی اس کے ہاتھ اس کے گرد بندھے تھے اور اس کی نگاہیں اسٹوڈنٹس پر تھیں۔ اس نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا کہ آواز پیدا نہ ہو اور آخری سیٹ پر بیٹھ گیا وہ اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی پشت پر ہونے کی وجہ سے کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ عمرہ کے دیکھ لینے پر وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ٹیچر سے اس کی کمپین کرے گی مگر ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی دوسرا ٹیچر اسے کلاس میں نظر آیا تھا۔ بورڈ پر چلی حروف میں لکھا تھا۔

”عالم اور عالم!“ وہی عالم ہے جس نے انسان کو اقل بنا پیدا کیا جو اسے موت دیتا ہے اور وہی اسے قیامت کے

دن جلا اٹھائے گا۔ اسی کے اختیار میں علم غیب ہے اور اس علم میں سے وہ جتنا چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے جیسے انبیاء و رسول۔ وہی ہر ظاہر باطن کو جاننے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو اسے پہچانتا ہے اور اسے بھی جو اسے پہچان کر بھی نہیں پہچانتا۔ یعنی عالم کو تو مانتا ہے مگر عالم کو نہیں مانتا۔“

اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سحر تھا دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح وہ بھی دم سادھے اب اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔

”کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے وجود سے انکار کر سکے؟“ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔

”نہیں میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا وہ لوگ بھی جو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے۔ جب ہم اپنے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے جو اس عالم کی ایک نہایت عاجز اور حقیر سی مخلوق ہیں تو ہم اس کے نہ ہونے پر کیسے بحث کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارا علم اس کے علم سے زیادہ وسیع ہے کہ ہم اس کے نہ ہونے پر دلائل پیش کریں وہ جس کے علم کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الملک میں ارشاد ہے۔“

”کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے۔“ اور اسی طرح سورۃ المجادل میں ارشاد ہے: ”کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جماعتوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (یعنی اللہ) اور پانچ کی (سرگوشی) ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ اس (عدد) سے کم (میں) ہوتی ہے (جیسے دو چار آدمیوں) اور نہ اس سے زیادہ (مگر وہ) (ہر حالت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں پھر ان (سب) کو قیامت کے دن ان کے کیے کام بتلا دے گا۔ بے شک اللہ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔“

وہ حد درجہ حیرت کا شکار ہو رہا تھا ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے ایک ایک آیت یاد ہے اور وہ کسی سخنوں کے ساتھ۔


وہ اب موازنہ کرنے لگا تھا۔

ہرگز نہیں۔ ”وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی پھر وہ اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوئی تھی۔

”کوئی سوال؟“ کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ سوال کی ضرورت بھی نہیں تھی؛ تیل رنگ سنائی دی تھی غالباً پیریز ختم ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ اسے دیکھتا رہا وہ اپنا فوٹو لڑ سیٹ کر رہی تھی جان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر عیرہ کو لگا تھا شاید وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔

”کوئی سوال؟“ عیرہ نے خصوصی پوچھا۔
”کچھ نہیں۔“ وہ جلدی سے اٹھا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔

”کیا ہو گیا ہے جان تمہیں؟“ وہ باہر نکلتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا وہ دروازے سے کھٹکے بڑھا تھا کہ اسے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا عیرہ کلاس سے باہر نکل کر اس کی مخالفت سمت میں جا رہی تھی وہ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوچھل نہیں ہو گئی اور اس کے بعد وہ خود بھی مخالفت سمت میں مڑ گیا تھا۔



”جھنڈوں کے گرد سیاہ چادر میں لپٹے ہاتھ ہاتھوں پر رکھا چہرہ اور آنکھوں کے کونوں سے ہتی تھی۔“ وہ کس کے لیے روری تھی اس طرح اکیلے بیٹھ کر جب سب میلاد میں مصروف تھے کس کے لیے اور کیوں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب عدیل نے اسے جھنجھوڑا۔

”یہ عیرہ کی تصویر کب کہاں اور کیوں کھینچ لی تم نے؟“ عدیل نے تصویر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت میکڈونلڈز میں بیٹھے تھے۔ صبح عدیل کے ڈیپارٹمنٹ میں میلاد تھا اور میلاد میں کھینچی جانے والی تصاویر جان عدیل کو دکھانے کے لیے لایا تھا جنہیں وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ سے شائع ہونے والے ماہانہ میگزین میں شائع کرنے والا تھا۔

عدیل ان تصاویر کو دیکھ کر ان پر تبصرے کر رہا تھا کہ اپنا کس کی تصویر لے لی۔

”فادر جوزف کو تو آج تک میں نے کبھی اس طرح ہائل کی Verses کو زبانی لوگوں کو سناتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے خود بھی ہائل کو اتنی بار پڑھا ہے اس کے احکامات پر عمل کیا ہے مگر کبھی اس کی Verses تو مجھے یاد نہیں رہ سکتیں۔“ ایک بار پھر عیرہ کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔

”عالم کو دیکھ کر تو عالم کے وجود سے انکار ہی ناممکن ہے اور یہ تو اللہ کی صرف ایک صفت ہے اس کا علم اگر ہم اللہ پاک کی دوسری صفات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کوئی بھی اس کے مثل نہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس جیسا رحیم ہو مہربان کریم ہو کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے باوجود بھی وہ اسے اپنے نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی نعمت زندگی اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں روح نہ پھونکتا۔ انہیں زندگی جیسی نعمت سے محروم یاب نہ کرتا تو کیا اس کی ذات کے حوالے سے ایسے شکوک پیدا ہوتے؟ اس نے انسان پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور اس کے بدلے میں کیا چاہا صرف خلوص دل سے اپنی عبادت صدق دل سے اپنی ذات سے محبت مگر ہم خود غرض اور احسان فراموش، ناشکرے انسان سے وہ بھی نہ دے سکے اگر قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ”اے بنی آدم! انہوں نے میری وہ قدر نہ کی جیسی تجھے کرنی چاہیے تھی۔“ تو بہت ٹھیک کہا ہے۔“ وہ ایک لمحے کے لیے ریکی اور پھر خاموشی طویل ہو گئی تھی جان کو بے چینی ہونے لگی تھی وہ کیوں خاموش ہو گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی تھی وہ کس بات پر شرمندہ تھی جان سمجھنے سے قاصر تھا۔

”میری آپ تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ خدارا پلیز اپنی حقیقت کو بچا لیں۔ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارے خالق کا ہے اس کے بعد کسی دوسرے کا۔ وہی سب سے زیادہ مستحق ہے ہمارے بھدوں کا ہماری زیادتوں کا اور کوئی بھی اس سب سے اس کا شریک نہیں۔“

مخسوس ہوتی ہے کیوں جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا اسے سنتا ہوں تو صرف اسی کو سننا چاہتا ہوں اور اسے سوچتا ہوں تو کچھ اور سونے کے لائق نہیں رہتا۔" عدیل کو اس کی باتیں بالکل پاگل پن لگ رہی تھیں۔

"تمہیں پتا ہے عدیل! جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس کی وہ پرنور نگاہیں میرے وجود میں اتر گئیں آج تک میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ایک مشہور راہب کا بیٹا ہونے کے باوجود میں خواب میں تم مسلمانوں کی اذان سنتا ہوں اور اب وہ ایک مسلمان لڑکی وہ ہر رات مجھے خواب میں نظر آتی ہے۔ وہ مجھے روشنیوں سے بھرے ایک راستے پر لے جاتی ہے اور میں کسی زر خرید غلام کی مانند اس کی پیروی کرتا جاتا ہوں۔ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف چلتا جاتا ہوں۔ میں کیوں کرتا ہوں ایسا میں نہیں جانتا۔ کیوں میں اسے اپنے حواسوں پر سوار ہونے سے نہیں روک پاتا میں نہیں جانتا عدیل! میں نہیں جانتا۔" جان نے ہار جانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنا سر نیچیل پر رکھ دیا اور عدیل حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ وہی جان تھا جو مسلمانوں سے خار کھاتا تھا جسے بچے کے مسلمان ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے وہ جان ویراج چوہان آج ایک مسلمان لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا اور شاید اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ عدیل کی نگاہوں میں خوف کے سائے لہر رہے تھے جان اس کا عزیز دوست تھا اور وہ اپنے دوست کو کبھی ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ جان یہ بازی روز اڈل ہی ہار چکا ہے۔



"احمد کی ماں نے کہا ہے کہ تمہیں شادی کے بعد اپنا رنگ ڈھنگ بدلنا پڑے گا کیونکہ یہ احمد کی خواہش ہے۔" وہ دونوں اس وقت کچن میں کھڑی تھیں اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔

"اماں! آپ نے یہ بات سن کیسے لی۔ کیا تبدیلی لاؤں میں اس انسان کے لیے اپنے اندر اور کیوں لاؤں؟

جان نے حیرت بھرے لہجے میں تصویر پکڑتے ہوئے کہا۔ "یہ کیسے ممکن ہے؟" جان نے دیکھا تھا تصویر اسی جگہ کی تھی جہاں اس نے جمیرہ کو اکیلے بیٹھے روٹا دیکھا تھا۔ "یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ تصویریں تم کھینچ رہے تھے میں نہیں۔" جان نے پُرسوج لہجے میں کہا اور عدیل نے گھور کر اسے دیکھا۔

"میں اتنی دیر سے اور کیا بکواس کر رہا ہوں کہ تمہیں ڈیپارٹمنٹ کے اوپر والے پورشن میں بھیجا تھا، گیلری کی طرف کہ وہاں سے اسٹیج کی ایک مین تصویر بھی بنا لو مگر تم نے نہیں بنائی۔" عدیل کا پارہ ہانکی ہو گیا تھا۔ جان نے غور سے تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکراتا شروع کیا اور پھر وہ مسکراہٹ ایک بلند و بانگ قہقہے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ عدیل نے گھور کر اسے دیکھا۔

"سورجی پارا وہ دراصل میں تصویر کھینچنے ہی گیا تھا اور کھینچی بھی تھی مگر وہ اسٹیج کے بجائے جمیرہ کی کھینچی گئی۔" جان نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔

"جسٹ شٹ اپ! بہت اچھی حرکت کی ہے ناں جو ہنس رہے ہوں۔ اب وجہ بھی بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟" عدیل نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا۔

"کیوں کیا میں نے یہ.....؟" جان کا اپنا انداز بھی سوالیہ تھا۔

"مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے..... میں نے یہ کب کیا؟" جان کو اپنی وہ محویت یاد آئی جب وہ جمیرہ کو دیکھ رہا تھا اور تب تک دیکھتا رہا تھا جب تک اس نے آنکھیں نہیں کھول دی تھیں اور وہاں سے ساتھ کر نہیں چلی گئی تھی۔

"کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟" عدیل نے تصویر اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ "تمہیں پتا بھی ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟" عدیل نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔

"نہیں! مجھے نہیں پتا عدیل! مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں اپنی ہر بات ہر احساس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے نہیں کچھ آتا کہ کیوں مجھے اس میں ایک عجیب سے کشش

میں جیسی ہوں وہ مجھے ویسے ہی اپنانے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ..... ورنہ آپ میرا رشتہ ختم کر دیں۔“ اس نے انک کر یہ جملہ مکمل کیا۔

”دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا رشتہ توڑنے کا مطلب سمجھتی ہو۔ کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ کتنی باتیں بنیں گی تمہارے بارے میں کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں اس بات کا۔“ انہوں نے عمیرہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔

”کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اماں! لوگوں کی عادت ہے وہ چار دن باتیں کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔“ عمیرہ کے انداز میں بے فکری تھی۔

”مجھے لگ رہا ہے کہ آج تم واقعی ہوش میں نہیں ہو۔ خیر جو بھی ہو شادی کے بعد تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو احمد چاہے گا کیونکہ وہ تمہارا مجازی خدا ہوگا۔“ ان کا لہجہ حتمی تھا۔

عمیرہ نے بے بس لٹکا ہوں سے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتیں گھر کے داخلی دروازے سے عہاد صاحب داخل ہوئے اور بلینڈ آواز میں سلام کیا تھا یہ ان کی عادت تھی وہ جب بھی نماز پڑھ کر گھر آتے تو سلام کیا کرتے تھے۔ وہ محلے کی چند معزز شخصیات میں سے ایک تھے اور ایک سرکاری اسکول میں بطور قاری اور اسلامیات کے ٹیچر تھے۔ گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے عمیرہ بھی ٹیوشن پڑھاتی تھی اور ان کی اماں سلائی کیا کرتی تھیں۔

”عمیرہ کی اماں ذرا ادھر تو آئیں۔“ انہوں نے صحن میں لگے درخت کے نیچے رکھے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ فوراً ہی کچن سے نکل کر ان کے پاس آ بیٹھی تھیں۔

”آغا صاحب ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے عمیرہ اور احمد کا نکاح کر دیں تاکہ عمیرہ کا امریکہ کے لیے ویزا بن سکے۔ رخصتی اگلے مہینے ہی کر دیں گے تو میں نے ہاں کر دی ہے اب آپ لوگ تیاری کر لیجیے گا۔ اگلے جمعہ عصر کے بعد نکاح ہے۔“ اس بات نے جہاں عمیرہ کی اماں کو بہت خوش کر دیا تھا وہیں عمیرہ کو بہت مایوس کر دیا تھا مایوسی کو کفر ماننے والی لڑکی آج غیر ارادی طور پر کفر کر بیٹھی تھی۔

”ہاں میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔“ وہ ان کے گلے لگے کئی بار یہ جملہ کہہ چکا تھا اور وہ مسکرا رہی تھیں۔

”میرا بیٹا مجھے یاد نہیں کرے گا تو پھر کسے کرے گا۔“ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہاتھوں میں لیتے ہوئے ماتھے کا بوسہ لیا۔ جان ان کی اکلوتی اولاد تھا اور انہیں بے حد عزیز بھی۔ جان کے والد اس کی پیدائش کے ایک ڈیڑھ سال بعد ہی وفات پا گئے تھے اور وہ بچپن سے ہی ان کے قصے سنتے ہوئے بڑا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک گارمنٹ فیکٹری کے مالک تھے سوشل لائف کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مذہبی لائف کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا وہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مختلف شہروں میں جاتے تھے اور ان کی بدولت عیسائیت کو بہت ترقی مل رہی تھی اسی لیے مسلمان رہنماؤں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی ممانے بتایا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے مسلمان رہنماؤں سے نفرت تھی۔

”اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟“ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔

”بہترین! آج کل ڈاکو میٹری پر بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔“ اس نے خوشی خوشی بتایا۔

”گڈ اور ماسٹرز کے بعد کیا ارادہ ہے جا ب یا پھر بزنس۔“ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔

”آپ کو ہوتا ہے ماما بزنس میری فیلڈ نہیں ہے مگر ہوتی تو میں بی بی اے کرتا ماس کو نہیں۔“ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

”ہوں اسی لیے میں نے کبھی تمہیں فورس نہیں کیا۔“ وہ کھانا ختم کر کے اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھیں۔

”جان! تمہاری صلیب کہاں ہے جو فادر جوزف نے لاسٹ ویک تمہیں دی تھی۔“ انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے پوچھا اور ان کی اس بات پر جان شپٹا گیا۔

”وہ..... وہ.....“ اس نے گردن پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی تبھی اس کی ممانے ہاتھ آگے بڑھایا۔

”ماما میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔“ وہ ان کے گلے لگے کئی بار یہ جملہ کہہ چکا تھا اور وہ مسکرا رہی تھیں۔

”میرا بیٹا مجھے یاد نہیں کرے گا تو پھر کسے کرے گا۔“ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہاتھوں میں لیتے ہوئے ماتھے کا بوسہ لیا۔ جان ان کی اکلوتی اولاد تھا اور انہیں بے حد عزیز بھی۔ جان کے والد اس کی پیدائش کے ایک ڈیڑھ سال بعد ہی وفات پا گئے تھے اور وہ بچپن سے ہی ان کے قصے سنتے ہوئے بڑا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک گارمنٹ فیکٹری کے مالک تھے سوشل لائف کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مذہبی لائف کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا وہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مختلف شہروں میں جاتے تھے اور ان کی بدولت عیسائیت کو بہت ترقی مل رہی تھی اسی لیے مسلمان رہنماؤں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی ممانے بتایا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے مسلمان رہنماؤں سے نفرت تھی۔

”اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟“ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔

”بہترین! آج کل ڈاکو میٹری پر بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔“ اس نے خوشی خوشی بتایا۔

”گڈ اور ماسٹرز کے بعد کیا ارادہ ہے جا ب یا پھر بزنس۔“ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔

”آپ کو ہوتا ہے ماما بزنس میری فیلڈ نہیں ہے مگر ہوتی تو میں بی بی اے کرتا ماس کو نہیں۔“ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

”ہوں اسی لیے میں نے کبھی تمہیں فورس نہیں کیا۔“ وہ کھانا ختم کر کے اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھیں۔

”جان! تمہاری صلیب کہاں ہے جو فادر جوزف نے لاسٹ ویک تمہیں دی تھی۔“ انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے پوچھا اور ان کی اس بات پر جان شپٹا گیا۔

”وہ..... وہ.....“ اس نے گردن پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی تبھی اس کی ممانے ہاتھ آگے بڑھایا۔

”اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟“ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔

”بہترین! آج کل ڈاکو میٹری پر بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔“ اس نے خوشی خوشی بتایا۔

”گڈ اور ماسٹرز کے بعد کیا ارادہ ہے جا ب یا پھر بزنس۔“ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔

”آپ کو ہوتا ہے ماما بزنس میری فیلڈ نہیں ہے مگر ہوتی تو میں بی بی اے کرتا ماس کو نہیں۔“ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

اس نے آپ کو چادر پہننے سے منع کیا ہے کیا یہ بات اتنی اہم ہے کہ جس پر آپ اتنا جذباتی قدم اٹھائیں۔ انہوں نے بہت نرم لہجے میں پوچھا۔

”کیا آپ کی نگاہ میں یہ بات اتنی اہم نہیں ہے بابا جانی۔“ عیبرہ کو حیرت ہوئی تھی۔

”نہیں ہے آپ ادھر آئیں میرے پاس۔“ انہوں نے بہت شفقت اور محبت سے کہا اور عیبرہ میکا کی انداز میں چلتی ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔

”آپ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہیں مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے لیکن آپ ایک بات کو بھول گئیں دین اسلام میں اللہ پاک نے کچھ حدود بنائی ہیں اگر انسان ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حد اعتدال سے بڑھ جانے والا ن میں یا پھر انتہا پسندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور دین اسلام میں انتہا پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ انتہا پسند ہوتی جارہی ہیں عیبرہ! انہوں نے اس کا سراپے سنے پر نکا کراس کا سر سہلاتے ہوئے کہا اور عیبرہ کو عجیب سی تسکین مل رہی تھی۔

”آپ اللہ سے اتنی محبت کرتی ہیں کیا آپ یہ چاہیں گی وہ آپ کو اپنے ناپسندیدہ لوگوں شامل کرنے نہیں ناں تو پھر جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے حق میں برا نہیں کرتا۔“ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔

”یہ میری دعا ہے آپ کے حق میں عیبرہ! ایک باپ کی دعا جس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا ظاہر کی ہے اللہ پاک آپ کو ایک صالح شوہر کا ساتھ نصیب کرے جناب سے بے حد محبت کرے آپ کا بہت خیال رکھے جیسی آپ ہیں ویسے ہی آپ سے محبت کرے اور ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا۔“ وہ رات گئے تک اپنے بابا جانی کی باتیں سوچتی رہی اور پھر اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔

”تم ناراض تو نہیں ہوناں عدیل!“ جان نے بے

اورا سے ہتھیلی پر وہ صلیب دکھی نظر آئی تھی۔

”شاید اپنی کار کے ڈیش بورڈ پر پھینک آئے تھے ہے ناں۔“ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ جان نے آنکھیں چرائی تھیں۔

”پہنیں اسے۔“ جان نے وہ صلیب ان کے ہاتھ سے لے کر گلے میں ڈال لی تھی۔

”آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے جان آپ کی اس حرکت سے چیز زہم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور ہو کیا سکتے ہیں ہو رہے ہیں۔“ ان کے اس جملے سے وہ سمجھ گیا کہ ان کا اشارہ پھیلے ہنٹے ہونے والی بات پر تھا۔

”آئی ایم سوری ماما“ جان شرمندہ ہوا۔

”اگر آپ نے یہ کہہ سنا تو میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔“ ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ جان گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔

”آئی ایم سوری ماما! میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہوں پلیز۔“ جان کا لہجہ سنجی تھا اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔

”ٹھیک ہے۔“ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور ایک گہری سوچ میں غرق ہوئی تھیں۔



”یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں عیبرہ!“ عباد صاحب کبھی عیبرہ کو دیکھ رہے تھے اور کبھی عیبرہ کی اماں کو۔

”آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کے اس فیصلے کا کیا نتیجہ ہوگا۔“ انہوں نے حیرت سے عیبرہ کو دیکھا وہ تو بہت سنجی ہوئی اور نرم مزاج لڑکی تھی مگر آج وہ حد درجہ بے عقلی کی باتیں کر رہی تھی۔

”میں اسے سمجھا کر تھک گئی ہوں اب آپ ہی اسے سمجھا سکتے ہیں۔“ عیبرہ کی اماں نے عباد صاحب کو مخاطب کیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔

”آپ اجہ سے رشتہ اس لیے توڑنا چاہتی ہیں کیونکہ

ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت جاگنگ ٹریک پر تھے۔ عدیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
 ”مجھے پتا نہیں میں اس دن کیا کیا کروں گا۔“ جان غراٹا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔
 ”جان! خاموش ہو جاؤ چلو یہاں سے۔“ عدیل زبردستی اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔



”کیا ہوا رک کیوں گئے؟“ جان نے اٹھے قدموں پیچھے ہوتے ہوئے کہا پوچھا اور اچانک ہی وہ بہت زور سے گسی سے لگرایا تھا۔ جان کی کہنی پیچھے سے آنے والے شخص کے پیٹ میں پوری قوت سے لگی تھی اور وہ پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔

”اوہ آئی ایم سوری۔“ جان جلدی سے پلٹا۔ ”سوری میں آپ کو دکھ نہیں پایا۔“ جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی مگر اس نے جان کا ہاتھ جھڑک دیا تھا۔

”امدھے ہو دکھائی نہیں دیتا جب ٹریک پر چلنے کا طریقہ نہیں آتا تو شیخی دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔“ اس کا انداز بہت بدلتا تھا جان کو بہت غصا آتا تھا۔

”مانسڈریو لینگو توج مسٹر اگر آپ مجھے امدھا کہہ رہے ہیں تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ میری تو پھر بھی آپ کی طرف پیٹھ تھی آپ تو مجھے دیکھ سکتے تھے یا میری طرح آپ بھی امدھے ہیں۔“ جان نے اب کی بار اسی کے انداز میں بات کی تھی۔

”نہو باسٹروڈ!“ اس لڑکے نے اٹھتے ہوئے جان کا گریبان تھامتا تھا جواباً جان نے بھی یہی کیا تھا۔ اتنے میں عدیل اور کچھ لوگ بھی ان تک پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے ان کا بیچ بچاؤ کرایا تھا۔

”آئی ایم سوری احمد بھائی! جان نے دیکھا تھا عدیل اس بدلتا لڑکے کو جانتا تھا۔“

”ایسے لوگوں سے دوستی کر رکھی ہے عدیل تم نے جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آؤں گا میں انکل سے تمہاری شکایت کرنے۔“ احمد عدیل پر بری طرح غصہ

کر رہا تھا۔
 ”آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے دوست سے اس طرح بات کرنے کا۔“ جان غراٹا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔
 ”جان! خاموش ہو جاؤ چلو یہاں سے۔“ عدیل زبردستی اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔



جان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اور اسی لیے کار بہت تیز چلا رہا تھا۔
 ”تم بیچ میں کیوں آئے عدیل! میں مار مار کر اس کا وہ حال کرتا کہ اسے اپنی نانی یاد آ جاتی۔“ جان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔

”اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے یوں معافیاں مانگنے کی وہ انسان تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں۔“ جان نے دیکھا عدیل بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ”تمہیں کیوں سنا ب سونگہ گیا۔“ جان نے اسے متوجہ کرنا چاہا اور عدیل نے کچھ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ”کیا ہوا؟“ جان کو اچھن ہوئی تھی۔

”وہ عجیرہ کا فیاسی ہے۔“ عدیل کے اس جملے پر جان کی گرفت اسٹیرنگ پر ڈھیلی ہوئی مگر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نامول ظاہر کیا تھا۔

”وہ عجیرہ کا فیاسی ہو یا شوہر آئی ڈونٹ کیئر۔“ جان نے بے فکری سے کہا۔

”شوہر بھی بن جائے گا اگلے ہفتے۔“ عدیل نے ایک اور بم پھوڑا اور جان کی رنگت مزید پھسکی ہوئی تھی مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عدیل کو اس کے گھر ڈراپ کر کے وہ خود بھی گھر آ گیا تھا مگر طبیعت کچھ بوجھل ہی ہوئی تھی۔

اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کار کی چابی بیڈ پر ہی ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ خود بھی بیڈ پر دراز ہو گیا۔ بنا جو گنگ ڈریس تبدیل کیے اور جاگڑا اتارے۔ وہ کتنی دیر بے حس و حرکت پڑا رہا تھا۔ جیسے وجود میں جان ہی نہ ہو جیسے دل ہی نہ دھڑک رہا ہو۔ اندھیرا روم میں مزید بڑھ گیا

داخل ہو کر ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں ان سے ملنے آیا ہے اور انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔

”سر میرا نام جان ویران چوہان ہے۔ ماس کوم فائل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مین پرپوز ہے سر کہ مجھے آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے اس سمسٹر کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے اور اسے مکمل کر کے اگلے ہفتے کے میگزین میں شائع کرنا ہے۔“ جان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بہت تفصیلی طور پر بتایا۔

”اوکے سسر چوہان! میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟“ ڈائریکٹر نے نرم لہجے میں پوچھا۔

”مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں اور آپ کے کچھ ٹیچرز سے بھی۔“ جان نے بہت سہولت سے جواب دیا بھی ایک کلرک دروازہ کھول کر اندر آیا اور ایک سرٹیفکیٹ ڈائریکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے سائن کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ڈائریکٹر نے وہ سرٹیفکیٹ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور ادھر ادھر پین دیکھنے لگا تھا جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین مسکرا کر ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے شکر یہ کہ ساتھ پین لیا اور سائن کر دیے۔ پین واپس لیتے ہوئے جان کی نظر سرٹیفکیٹ پر پڑی تھی اور ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رگ گیا تھا۔ وہ جیمرہ کا انٹرشپ سرٹیفکیٹ تھا۔

”اس کا مطلب اس دن وہ ایک انٹرنی کے طور پر پڑھا رہی تھی اور میں اسے پریزنٹیشن سمجھ رہا تھا۔“ جان ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔

”سسر چوہان۔“ ڈائریکٹر نے اسے پکارا۔

”سرا کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟“ جان نے پین پکڑتے ہوئے کچھ ہنس بھسکے لہجے میں کہا۔

”یس پلیز۔“ ڈائریکٹر نے اب بھی نرم لہجے میں کہا۔

”میں آپ کے اور ٹیچرز کے انٹرویوز کے علاوہ کچھ کلاسز بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی پرہیز نہیں ہوگی۔“ جان نے بہت محتاط انداز میں کہا۔


تھا مگر ایک عجیب سی روشنی اسے اپنے وجود میں محسوس ہوئی تھی اس نے آنکھیں بند کی اور جیمرہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں ابھرا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔

”یہی سی روشنی ہے اسی کی.....“ اس نے خود کو مخاطب محسوس کیا تھا۔

”کیا تم میرے وجود میں کہیں ہو جیمرہ عہاد؟“ اس نے خود سے پوچھا تھا۔

”کہاں؟“ وہ ایک بار پھر مخاطب تھا یک دم اس کی آنکھیں ایک انجانے خوف سے پھیل گئی اور وہ اپنی جگہ اٹھ بیٹھا تھا۔

”کہیں..... کہیں تم میرے دل کے نہاں خانوں میں تو مقید نہیں ہو گئی ہو جیمرہ!“ اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔



اس نے عمارت پر ایک گہری نگاہ ڈالی تھی اسلامی طرز پر بنائی گئی وہ عمارت اسلامی طرز کا مرکز تھی۔ داخلی دروازہ عیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر خوب صورت نقش کاری کی ہوئی تھی۔ دروازے کے آگے ماربل کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف طویل کیاریاں بنی ہوئی تھیں جن میں موتیا اور گلاب کے پھول کھلے تھے۔ دروازے کے اوپر بلیک فلر کی بہت چوڑی انٹرشپ پر سنسور کے چلی حروف میں لکھا تھا۔

”Institute of Islamic Studies“ اس نے ایک گہرا سانس لے کر ڈیپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھ دیا۔ وہ آج یہاں چوٹی ہارا آیا تھا وہ پچھلے چار سال میں بھی اس ڈیپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا۔ اسے اسلام میں نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ وہ سن اسلام پر وعظ و تبلیغ کرنے والوں سے۔ عدیل ایسے لوگوں میں نہیں تھا شاید اسی لیے وہ جان کا سب سے قریبی دوست تھا اور شاید یہی وجہ تھی جس کے سبب جان نے پہلی ملاقات میں جیمرہ کی کہی ہوئی بات پر حد درجہ ناگواری کا اظہار کیا تھا مگر اس ایک لمحے کے بعد اس نے کبھی جیمرہ سے ناگواری محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کلرک آفس میں

”نہیں! بالکل بھی نہیں اگر آپ بیچ کر سکیں تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔“ ڈائریکٹر نے حد درجہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔


”ویسے آپ کون سے ایئر کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہیں گے؟“ ڈائریکٹر نے پوچھا۔

”میں مس عبیرہ کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہوں گا وہ جس ایئر کو بھی پڑھاتی ہیں۔“ جان نے جواب دیا۔

”آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر چوہان! عبیرہ ہماری ایک قابل طالبہ ہیں اور آج کل ایک انٹرنی کے طور پر کلاسز دے رہی ہیں وہ پروفیسر نہیں ہیں۔“ ڈائریکٹر نے اسے وضاحت دی۔

”میں جانتا ہوں میں نے ان کی ایک کلاس اٹینڈ کی تھی مجھے ان سے بھی کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔“ جان نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا مگر یہ بات اس کے دل کو ایک عجیب تسکین دے رہی تھی۔

”اوکے جیسٹاپ کی مرضی۔“ ڈائریکٹر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد جان نے ڈائریکٹر اور کچھ ٹیچرز کے انٹرویوز لے لیے اور مطمئن دل کے ساتھ ڈیپارٹمنٹ سے واپس آ گیا تھا۔



وفا جب مصلحت کی مثال اڑھے

سردت کا روپ دھارنے دل کی آنگن سے گزرتی ہے

تو پلکوں پر ستاروں کی دھنک سکانے لگتی ہے

کبھی خوابوں کے ان چھوئے ہوووں سے بھی

ان دیکھی ہی آنجانی سی خوشبو آنے لگتی ہے

کسی کے سنگ بیتے ان گنت لمحوں کی زنجیریں

اچانک ذہن میں جب گنگناتی ہیں

نفس کے تار میں سناٹا ایک دم حج اٹھتا ہے

تو یوں محسوس ہوتا ہے

ہوا میں آ کے سرگوشی ہی کرتی ہیں

محبت کا نہیں اب تو ادراک ہو گیا ہوگا

یہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی سینے نہیں دیتی

محبت روٹھ جائے تو کبھی جسنے نہیں دیتی وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا لاسٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی اپنا ایک ایک طرف ڈالا اور اپنے گلے میں بڑا کارڈ سینٹرل ٹیبل پر پھینکا تھا۔ اپنی ٹائی کی ٹاٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ ٹائی بھی کھول کر اس نے ٹیبل پر ڈال دی اور صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ تھکا دٹ اور بے زاری دونوں ہی اس کے چہرے سے عیاں تھیں۔ پورے دن کی رومین یاد کرتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب وہاں نہیں رہ پائے گا۔ ہر ملک ہر شہر میں وہ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک ہی ٹیک پاتا تھا اور یہاں تو پھر بھی اس نے پورا ایک سال گزار دیا تھا۔

”جب ہماری کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو جب ہماری بہت کوشش کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں اور ہماری پریشانیاں ہمارے جسم و روح کو گھائل کرنے لگیں تب ہمیں نماز قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ نماز بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق پیدا کرتی ہے جب لوٹا دل اس عظیم الشان رب کے روبرو جھکتا ہے تو صرف لب تھر تھراتے ہیں اپنی اذقات اور اپنے بے بس و حقیر ہونے کا احساس ساوی ہوتا ہے۔ دل سے ہر غرور اور تکبر مٹ جاتا ہے۔ اس کی بلندی اور اپنی بندگی کا احساس بندے کو اس کے رب کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور بے شک اللہ پاک عجز و انکسار کو پسند کرتا ہے۔“ اس کے کانوں میں اسی انسان کی آواز گونج رہی تھی جسے اس نے ہمیشہ آئیڈیل بنا کر کیا تھا اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نماز پڑھنی تھی ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی سب سے بڑی مدد نماز۔ کچھ دیر بعد اس کی انگلیاں بہت تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی کیز پر چل رہی تھیں۔

ریپرینٹیشن مکمل ہو چکا تھا اس نے اپنا نام لکھا۔
 ”کاشان فریدی“ اور اپنی مہنی کے میلنگ ایڈریس پر بھیج
 دیا تھا۔ کافی کا کپ اٹھائے وہ کوریڈور میں کھڑا ہو گیا۔
 سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں
 کل کے پیپر میں چھپنے والی سرخی ابھرنے لگی تھی۔
 ”پاکستان کے مشہور جرنلس میں سے ایک“ کاشان
 فریدی اپنے کیریئر کی بلندی پر اپنی جا ب سے مستعدی دے
 چکے ہیں۔“

کمرانی تھی۔
 ”انکل! مجھے یہ بات بتانا چاہی ہے کہ پہلے تو میں
 گئی ہوتی تو میں طوبی سے یہ بات نہ چھپاتا۔ مجھے نہ ت
 سب آپ لوگوں نے اسے یہ بات کہیں نہیں بتائی۔ یہاں ہ
 حق تھا کہ اسے پتا چلتا کہ وہ... وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔
 اگر کل.....“ اس کا جملہ ابھرا رہ گیا تھا وہ طوبی کو دیکھتا رہا
 پر کھڑا دیکھ چکا تھا وہ غیر یقینی لگا ہوں سے ان تینوں کو دیکھ
 رہی تھی۔ وہ بھی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹے گی۔

”نہیں..... یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹ ہے.....
 یہ.....“ وہ برسی آنکھوں سے مڑی اور بھاتی ہوئی
 دروازے کی طرف بڑھ گئی احرام اس کے پیچھے آیا مگر
 طوبی اس کی پہنچ سے باہر نکل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی
 پولیس کو اطلاع کیا کچھ دیر بعد ہی انہیں طوبی کا پتا چل گیا
 تھا۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے بات کرنے پر پتا چلا تھا کہ
 زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی صرف ہاتھوں کی کلاسیاں زخمی
 ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں
 سے آنسو پھر رواں ہو گئے تھے۔

”طوبی! میری بیٹی..... تم صرف ہماری بیٹی ہو۔ صرف
 ہماری اور بس.....“ مسز یامین نے جھک کر اس کے ماتھے کا
 بوسہ لیا اور بیڈ پر ہی اس کے برابر بیٹھ گئی تھیں۔ مسز حیات
 بھی آگے بڑھائے اور اس کا ہاتھ تمام کرنا بہت محبت سے
 اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔
 ”طوبی! آپ صرف ہماری بیٹی ہیں اور کسی کی نہیں۔“
 ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔

”یہ حقیقت نہیں ہے بابا! اور آپ کے کہہ دینے سے
 حقیقت نہیں بدلے گی۔ کون ہوں میں؟ کیا ہے میری
 پہچان؟ اور کس خاندان سے ہے میرا تعلق؟“ وہ رندھے
 لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ”کم از کم آپ مجھے یہ ہی بتادیں کہ
 کہاں سے ملی تھی میں آپ کو؟“ وہ مڑی طرح رونے لگی۔
 ”میں بتاتا ہوں کون ہیں آپ؟ کیا سب آپ کی پہچان
 اور کس خاندان سے تعلق ہے آپ کا؟“ ایک باوقار آواز
 دروازے کی طرف سے ابھری تھی۔ ان تینوں نے ہی

اس نے کسماتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں۔ سر
 شدید درد کی لپیٹ میں تھا آنکھیں کھلتے ہی بند ہو گئی تھیں
 جس کا سبب کمرے میں چلنے والی لائٹ تھی یا پھر بہت دیر
 آنکھیں بند رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ
 آہستہ سے آنکھیں دوبارہ کھولی اور اب کی بار وہ کامیاب
 رہی تھی۔ وہ اس وقت اسپتال کے بیڈ پر تھی ایک ڈاکٹر اس
 کا ہاتھ تھامے اس کی نبض چیک کر رہا تھا اسے آنکھیں
 کھولنا دیکھ کر ڈاکٹر اس سے مخاطب تھا۔

”کیسی ہیں مس طوبی آپ؟“ اس نے جواب دینے
 کے بجائے مسٹر اور مسز یامین کو دیکھا ان کی نگاہوں سے
 بے بسی اور مجبوری عیاں تھی اس کے ذہن میں آج ہونے
 والا اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ سب سے بڑا سچ
 گھومنے لگا تھا۔ آج اس کی شادی اس کے بابا کے سب
 سے بہترین دوست کے بیٹے احرام سے ہو رہی تھی پانچ
 سال منگنی کے بعد آج یہ رشتہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا اور آج کے
 دن ہی اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ جنہیں وہ اپنا ماں باپ
 سمجھتی تھی ان کا تو اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ یہ
 انکشاف اس پر آج بھی نہیں ہو پاتا اگر برات سے آدھا
 گھنٹہ پہلے احرام کی آمد نے اسے حیرت میں نہ ڈال دیا
 ہوتا۔ وہ دہن بنی کمرے سے باہر نکلی تھی پورے گھر میں
 سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں ہو رہی
 تھیں۔ وہ شرارہ سنبھالے اپنے بابا کے کمرے کے
 دروازے تک پہنچی تھی۔ اس کے کانوں سے احرام کی آواز

ہے، آپ کی اسٹینڈنس بہت شارٹ ہے آپ ہیپر نہیں دے پائیں گے آپ کا رول نمبر کیا ہے؟ اس نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تبھی کچھ اسٹوڈنٹس اندر داخل ہوئے اور عبیرہ کو سلام کر کے اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔

”لیس مسٹریک سیٹر۔“ اس نے پین سے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبیرہ اسے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی جب کہ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے۔ وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی کچھ اسٹوڈنٹس اور آگئے تھے۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے آجانے کے بعد عبیرہ نے ایک بار پھر جان کی طرف دیکھا۔

”آپ کا نام؟“ مگر شاید ابھی قسمت جان کے ساتھ نہیں تھی دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈائریکٹر عبدالرؤف اندر داخل ہوئے تھے انہیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے سوائے جان کے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جان سے ہاتھ ملایا جس نے عبیرہ سمیت سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ عبیرہ ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔

”اسلام علیکم سر! آپ یہاں کسے؟“ عبیرہ نے بہت شائستہ لہجے میں پوچھا۔

”وعلیکم السلام! آج ایک ضروری کام تھا اس لیے آنا پڑا۔ ان سے ملیں یہ مسٹر جان ویران چوہان ہیں۔ ماس کوم فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں اپنے اسائنمنٹ میں آپ کی مدد چاہیے یہ کچھ انفارمیشن جمع کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ان کی اچھی طرح مدد کریں گی۔“ عبیرہ نے ان کی بات پر صرف سر ہلایا تھا۔

”اوکے گڈ لک مسٹر چوہان۔“ انہوں نے ایک بار پھر جان سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گئے۔ اب عبیرہ جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔

”آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔“ عبیرہ کا لہجہ بہت نارمل تھا۔

”اس کا موقع ہی نہیں آیا۔“ جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”وہی ایک اور وجہ بھی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ مجھے کلاس

دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے بے ہوش ہونے سے چند سیکنڈ پہلے دیکھا تھا۔

”کون ہے یہ؟“ اس کے ذہن میں کھلبلی مچ گئی تھی۔

وہ پچھلے ایک گھنٹے سے اسی کلاس میں اسی چیر پر بیٹھا تھا جس میں اس نے عبیرہ کا پہلا لیگچر اسٹینڈ کیا تھا، کانوں میں پینڈز فری لگائے وہ بیک اسٹریٹ بوائز کا سوگ کتنی ہارسن چکا تھا۔

”کیا ہے میری خواہش؟ کیا میں واقعی عبیرہ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں یا پھر..... ہمیشہ کی طرح..... صرف محویت کا شکار ہونا چاہتا ہوں۔“ اس نے گانا بند کر کے خود سے پوچھا۔

”کیوں آیا ہوں میں یہاں کس لیے؟“ بے ترتیب لیکن بامعنی سوالات اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے مگر زندگی میں پہلی بار اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہیں تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک لمبے وقت اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہ ہوگا، ایک دم دروازہ کھلا اور اس نے پلٹ کر دیکھا، عبیرہ ہاتھوں میں بلیک رنگ کی فائل اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھنک کر رک گئی۔ غالباً میلاد والا دن اسے یاد تھا۔ جان نے اس کی آنکھوں کے تاثرات سے اندازہ لگایا تھا مگر پھر وہ قدرے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھائی تھی۔

”باقی اسٹوڈنٹس کہاں ہیں آپ کی کلاس کے؟“ خالی کلاس پر نظر ڈالتے ہوئے وہ غالباً جان سے مخاطب تھی۔

جان کے جواب نہ دینے پر فائل ٹیبل پر رکھ کر وہ پلٹی۔ جان اسے ہی دیکھ رہا تھا مگر اس کے کانوں میں پینڈز فری لگا تھا۔ عبیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پینڈز فری نکالنے کا کہا، اس نے غیر محسوس مسکراہٹ کے ساتھ پینڈز فری کانوں سے نکال دیا۔

”آپ کی کلاس کے باقی کلاس فیلوز کہاں ہیں؟“ فائل سے اسٹینڈنس شیٹ نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔

”اور آپ نے سسٹر کے ایڈیشن جان کہاں کہا


سے نکل جانے کا کہیں گی کیونکہ میں ایک لون مسلم ہوں اور آپ کا بیڈ پارٹنر اسلٹ اسلامک یچنگ پر مبنی ہے۔" جان نے اسی انداز میں کہا۔

"کیا...؟" عبیرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ "ایسی کوئی بات نہیں ہے میری نظر میں ان کی بہت عزت ہے جو دین اسلام کو اپنی خواہش اور خوشی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔" عبیرہ نے اب بھی نرم لہجے میں کہا تھا۔

"تو پھر؟" عبیرہ پہلی بار چونکی تھی مگر جان خاموش ہو گیا یہ تو خود اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا کیا چیز تھی جو اسے واپس یہاں کھینچ لاتی تھی۔

"اوکے آپ اگلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ جائیں۔" اس کے خاموش رہنے پر عبیرہ نے کہا اور پلٹ کر بورڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جان اپنا بیگ اور ریکارڈ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا تھا بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں اس کے پیچھے چلا کرتا تھا وہ بورڈ رٹنا تک لکھ رہی تھی۔

"صدقہ و تقویٰ۔" وہ ہمتن گوش ہو کر سن رہا تھا اس کے لیکچر کے دوران وہ ایک بار پھر فادر جوزف اور عبیرہ کا موازنہ کر رہا تھا۔



"میں یقین رکھتا ہوں اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔" وہ اپنی جگہ پر کھڑا بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ آج وہ عبیرہ کا چوتھا لیکچر آئیڈ کر رہا تھا۔ عبیرہ ابھی آئیڈز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نظریہ پوری کلاس کے سامنے بلند آواز میں بیان کیا۔ جان کی اس بات نے اسٹوڈنٹس کو طیش دلا دیا تھا مگر عبیرہ کے ایکسپریشن سب سے مختلف تھے۔ اس نے پُر سوچ انداز میں مسکراتے ہوئے جان کو دیکھا۔ جان بھی اس کے ایکسپریشن پر چونکا تھا۔

"آپ ایسا کہہ سکتے ہیں مسٹر چوہان کہ اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں۔" عبیرہ کے ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سب کو چونکا گئی تھی۔ "لیکن کیا آپ یہ واضح کریں گے کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟" عبیرہ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر پوچھا۔

"آپ کے پچھلے لیکچرز کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے۔ جن میں آپ نے صدقہ خیرات تقویٰ پر ہیزار کاری اور قیامت کے بارے میں اپنی مقدس کتاب سے حوالے دیئے۔ شیطان کے بارے میں بتایا اور کہا جو مقدس کتاب پر عمل نہیں کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ عیسائیت میں بھی یہی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم میں بھی متقی اور ہیزار کاری ہوتا ہے جو صدقہ خیرات کرنے عبادت کر کے بائبل پر عمل کرے اور قیامت پر یقین رکھے پھر آپ مجھے بتائیں فرق کہاں ہے؟" جان نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔

"کیا کوئی مسٹر چوہان کے تصور کی حمایت کرے گا؟" عبیرہ تمام اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوئی تھی۔

"میرا نہیں خیال میم کہ ان کا یہ کہنا درست ہے کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے ہیں نفوذ باللہ۔" ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ "اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے کیا چیز کی پیدائش ایک معجزہ نہیں ہے؟" جان نے دوبارہ کہا۔ اس لڑکے نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر عبیرہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔

"آگینیے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟" عبیرہ نے ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ کو مخاطب کیا تھا۔

"لو میم! اس کے لہجے میں بہت کڑواہٹ تھی۔" "کیا آپ واقعی عیسائیت پر یقین نہیں رکھتیں؟" عبیرہ نے تصدیق چاہی تھی۔

"لیس میم! اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔" "کیا کوئی آگینیے کی بات کی حمایت کرے گا۔" عبیرہ نے سب کو مخاطب کیا تھا تقریباً سب نے ہاتھ اٹھلایا ماسوائے چند ایک کے۔

"عبداللہ آپ نے آگینیے کی حمایت کیوں نہیں کی؟" عبیرہ نے ان چند اسٹوڈنٹس میں سے ایک سے پوچھا۔

"میم آگینیے اپنے اس جملے سے نا دانستہ طور پر اللہ کے دین سے انکار کر رہی ہیں۔ اللہ کے دین سے انکار کا

www.Paksociety.com

کی حمایت کر رہی ہیں ہم اتنے مسلمانوں کی مخالفت میں۔ آگینے کا لہجہ ذومعنی تھا۔

”کیا آپ کو یقین ہے آگینے آپ نے یا کلاس میں سے کسی نے بھی میرا جملہ پورے غور سے سنا تھا جو آپ کے مطابق میں نے مسٹر چوہان کی حمایت کرنے کے لیے کہا؟“ عیبرہ نے بہت مدہم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔

”ییس میم! آپ نے کہا تھا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔“ آگینے نے بہت اطمینان سے کہا۔

”میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔“ عیبرہ نے تردید کی اور سب دنگ رہ گئے تھے۔ جان سوچنے لگا تھا کیا کہا تھا عیبرہ نے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور اسے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اپنی بہترین یادداشت کے سبب وہ بلند آواز میں بولا تھا۔

”مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں۔“ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔

”بالکل! میں نے یہی کہا تھا آپ بیٹھ جائیے پلیز۔“ عیبرہ نے بہت ہر سکون لہجے میں کہا۔ ”اب میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، ماسوائے مسٹر چوہان کے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی توحید کے سوائے کوئی پیغام دیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے اللہ کا رسول ہونے کے دعوے کے سوا کوئی اور دعویٰ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہا تھا اپنی امت سے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں۔“ اب پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ ”نہیں انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس سے اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی اور معنی نکلتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اضافی بات نہیں کی، کوئی بہتان نہیں باندھا اللہ پر پھر میں آپ یا کوئی اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام سے مختلف ہے۔“ اب جان سمیت پوری کلاس پر عیبرہ کے جملے کا تصور کلیئر ہو گیا تھا۔

مطلب جس نبی پر وہ دین وہ شریعت اتاری گئی اس نبی کا انکار اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے انکار ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی بھی مسلمان اپنے دین سے باہر نکل سکتا ہے کیونکہ اسلام کی اساس ہی یہی ہے کہ اسلام کا ماننے والا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ انبیاء کرام پر ایمان اسلام کے چار بنیادی عقائد میں دوسرا بڑا عقیدہ ہے۔ جس کو اللہ نے توحید کے بعد لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ ”عبداللہ کے خاموش ہونے پر عیبرہ کے چہرے پر ایک تیز چمک ابھری تھی۔

”شاہا ش عبداللہ! آپ نے اپنے نام کی لاج رکھی۔ جزاک اللہ خیرا۔“ عبداللہ کے بیٹھنے کے بعد عیبرہ باقی اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوئی۔

”آپ لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا مجھے لگا کہ آپ میری ہر بات سمجھتے ہیں اور آ نے والی زندگی میں آپ کو کبھی اسلام کے حوالے سے کوئی ابھمن نہیں ہوگی لیکن مجھے بہت اسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ نے صرف سنا، رٹا لگایا مگر سمجھا نہیں۔ یہی ہماری قوم ہم سب مسلمہ کا المیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم تفرقے میں پڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے دین اسلام کو تنگ نظری اور محدودیت کا مذہب بنا دیا ہے۔ بنا سوچے سمجھے ہم اللہ پر بہتان باندھ دیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا۔ ہم اس کے حکم سے روگردانی کر کے بھی بے خبر رہ جاتے ہیں۔“ عیبرہ ایک لمحے کے لیے رکی تو آگینے مخاطب ہوئی تھی۔

”آئی ایم سوری میم! لیکن میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ میں صرف نون مسلموں کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی تھی مگر کیا آپ وضاحت کر سکتی ہیں اپنے اس تصور کی کہ اسلام اور عیسائیت ایک مذہب ہیں ان میں کوئی فرق نہیں حالانکہ آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ اسلام میں کہیں بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں اور عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور آپ ایک مشرک

دل میں عبیرہ کے معترف ہوئے تھے کہ اس نے کتنے بہترین طریقے سے جان کی بات کو غلط قرار دیا تھا۔

”آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے کیونکہ بنا والد کے وجود میں آئے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے تو نہ قادر تھے نہ در آپ کے مطابق پھر ان کا تو سب سے زیادہ حق ہے بن اللہ ہونے کا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں یا؟“ عبیرہ کی اس بات نے تو اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کبھی اس زاویے سے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ عبیرہ اب پوری کلاس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

”قرآن پاک میں اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”اللہ کے ہاں جیسے آدم ویسے عیسیٰ“ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا: ”وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔“

”ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے مگر اس معجزے کے ہونے میں صرف اللہ کا ارادہ شامل ہے اس میں نہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش ہے وہ دونوں ہی پیغمبر اللہ تھے اور دین خدا پر عمل کرنے اور کروانے والے مگر بن اللہ ہرگز نہیں۔“ عبیرہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔

”آپ نے کہا تقویٰ کی بنیاد پر اسلام اور عیسائیت ایک ہی مذہب ہیں سو بنیادی طور پر تقویٰ ہے کیا؟ ایک اچھائی؟ یقیناً ایک اچھائی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ انسانی اخلاقیات کا جزو ہے اور انسانی اخلاقیات صرف کسی ایک مذہب کے لیے مخصوص نہیں ہیں اس کی تعلیم ہر مذہب نے ہر دور میں کی ہے پھر چاہے وہ اسلام ہو عیسائیت، یہودیت ہو یا پھر بت پرستی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھائی کی بنیاد پر سب مذہب ایک ہیں تو ہم اچھائی کی بنیاد پر تو وہ مذہبوں کے درمیان فرق کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں وہ بنیاد ڈھونڈنی چاہیے جس کی بنیاد پر یہ مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اگر ہم بت پرستی کو دیکھیں تو

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب انجیل دے کر گئے تھے اپنی امت کو مگر ان کی امت نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی مشابہت کیں اس کتاب الہیہ میں اپنی من گھڑت باتیں شامل کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور.....“

”آپ سراسر غلط کہہ رہی ہیں۔“ جان نے کھڑے ہو کر بہت بلند آواز میں کہا۔ ”خود بائبل میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا سے پتہ سمہ لیا تو خدا نے کہا کہ بلاشبہ یہ ہماری اولاد ہے اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ بھی ہماری اولاد میں شامل ہو جائے گا۔ اب کیا آپ بائبل کو بھی جھٹلائیں گے بقول آپ کے وہ ایک آسانی کتاب ہے اور آسانی کتاب کے انکار سے ایک مسلمان مسلمان نہیں رہتا۔“ جان کو غصہ آ گیا تھا۔ جان کے غصے کا کوئی ٹوٹس لینے کے بجائے عبیرہ نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور جان کی طرف بڑھا دیا جو جان نے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔

”زیلیکس! ہم یہاں حق و باطل کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں مسٹر چوہان! حق و باطل کا فیصلہ محشر کے دن اللہ پاک خود فرما دیں گے۔ ہمارا یہاں مین پر پزیرہ ہے کہ ہم آپ کی رائے کا تجزیہ کریں کہ آج کی عیسائیت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔“ عبیرہ نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پلٹ کر اسے مخاطب کیا۔

”آپ نے اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تقویٰ کی مثال دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے لیے آپ نے کہا کہ ان کی پیدائش معجزہ ہے۔ اس کائنات میں تو اللہ پاک کے بے شمار معجزات ہیں۔ آسمانوں کا بنا ستون کے کھڑا ہونا زمین کا گردش کرنا مگر محسوس نہ ہونا، ہوا کا چلنا مگر دکھائی نہ دینا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بنا والد کے وجود میں آنا۔“ اپنی بات مکمل کر کے عبیرہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جان کو دیکھا وہ اپنی جگہ گنگ رہ گیا تھا جب کہ باقی اسٹوڈنٹس دل ہی

وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں یعنی اللہ کو جانتے ہی نہیں! یہودیت اور عیسائیت یہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اسے صاحب اولاد بھی سمجھتے ہیں اور اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے ماننے والے اللہ پاک کو اس کی ذات و صفات میں یکتا و تنها مانتے ہیں۔ وہ واحد مذہب جو اللہ کو ماننے کا حکم دیتا ہے اور اسے ہر طرح کے شرک سے پاک بتاتا ہے وہ واحد مذہب جس میں چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی تحریف نہیں ہوئی۔ وہ واحد مذہب جو اپنے ماننے والے کو اس بات کا ہرگز پابند نہیں کرتا کہ وہ ہر وقت صرف اسلام کا کلمہ پڑھتا رہے۔ سر پر ٹوپی رکھے ہاتھ میں تسبیح لیے پھرتا رہے۔ نہیں اسلام ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے والے شخص کا مذہب ہے۔ کائنات کی تخلیقات پر نظر ثانی کر کے اسے سمجھ کے ماننے والے کا مذہب ہے جو انسان کو ہر مذہب کے مطالعے کی اجازت دیتا ہے اور میں نے ہر مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کو ذل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ وہ واحد مذہب جس کو اللہ پاک نے اپنا دین پسندیدہ قرار دیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی پھر جان سے مخاطب ہوئی۔

”مجھے یقین ہے مسٹر چوہان! اب آپ کو اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا کہ دین اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے لیکن نظریات کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر دین کے بارے میں تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سوائے اسلام کے ہر مذہب کے رہنما اپنے مذہب کے ماننے والوں کو صرف اپنے دین کے مطالعے پر پابند کرتے ہیں۔ آپ کے دینی علماء ذرا ہب لوگ بھی آپ کو ہر دوسرے دین اور خاص طور پر اسلام سے تو ہر حال میں دور رہنے کا کہتے ہوں گے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟“

عیرہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور جان نے سر ہلکا دیا تھا جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہو بھی تیل بجی آلبا پیر میٹاف ہو چکا تھا۔

”میری آپ سب سے گزارش ہے براہ مہربانی حق و باطل کی بازیکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے

ضروری ہے کہ مطالعہ کریں۔ حق اور سچ کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے قدم ذرا سے ڈگمگائیں ایمان ذرا سا متزلزل ہو تو نگاہوں کے سامنے منزل رہے اور نہ ہی قدموں تلے راستہ۔ حق اور سچ کا راستہ۔“ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ کتابیں سمیٹتے ہوئے باہر نکل رہے تھے جب کہ کچھ عیرہ کے گرد کھڑے اس سے معذرت کر رہے تھے جن میں آگینے بھی تھی۔ وہ اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھا سب کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ عیرہ کے چہرے پر وہی ہی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی جیسی اسے خواب میں دکھائی دیتی تھی وہی فاتحانہ مسکراہٹ اس نے جان کو صرف اپنی باتوں سے منہ کے بل ایک اندھے کنویں میں گرا دیا تھا۔ جان کو وہاں کی ہر شے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔

”مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔“ وہ حواس باختہ سا خود سے مخاطب ہوا تھا۔

”کتنا عجیب انسان ہے یہ۔“ عیرہ نے اسے لکھا دیکھ کر سوچا۔



کار بہت تیزی سے مین روڈ پر لاتے ہوئے اس نے ریڈ یوٹیون اون کیا تقریباً تین مہینے بعد وہ سوسائٹی سے نکلا تھا اپنی سوسائٹی میں ہی اس کی کپڑے کی دکان تھی جو چند ہفتوں میں بہت بزنس کرنے لگی تھی مگر میں خوش حالی تھی۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی اور آج اس کی زندگی کا سب سے خوب صورت دن تھا زندگی نے اس کا ایک درجہ اور بلند کر دیا تھا۔ شوہر سے باپ۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں خرید لینا چاہتا تھا۔ ریڈیو پر ایک بہت دل کش آواز سنائی دے رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر آواز بلند کی۔ بہت باوقار مردانہ آواز۔ بہت محبت سے بھرپور لہجہ بہت ہر سوز اندازہ کیا پڑھ رہا تھا اسے سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔

تو امیر حرم میں فقیر عجم
تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب
تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا
تو کجا من کجا تو کجا من کجا

”کیا ہے یہ؟“ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا مگر اسے لگا
تھا جیسے اس کا ذہن کچھ پہچاننے سے قاصر ہو۔ ”مجھے یہ آواز
آتی مانوس کیوں لگ رہی ہے کون ہے یہ آواز اور یہ کیا پڑھ
رہا ہے؟“

تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے
میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے
کعبہ عشق تو میں تیرے چارسو
تو اثر میں دعا تو کجا من کجا
وہ لفظوں پر غور کر رہا تھا

میرا ہر سانس تو خونِ نچوڑے میرا
تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا
کاسہ ذات ہوں تیری خیرات ہوں
تو سخی میں گدا تو کجا من کجا

یک دم ہی دنگ اسکرین پر ایک منظر ابھرا تھا۔ ایک
خاتون ہاتھ میں دودھ کا گلاس اٹھائے ایک کمرے میں
داخل ہو رہی تھیں بہت سلیقے سے پہنا ہوا اونچا چہرے پر
مامتا سے بھرپور مسکراہٹ لیے وہ ایک کونے کی جانب دیکھ
رہی تھیں جہاں ایک ٹیبل چیر رکھی تھی اور اس پر ایک لڑکا
بیٹھا تھا وہ لائٹس کی روشنی میں کچھ لکھ رہا تھا وہ اب اس کے
قریب پہنچ گئی تھیں۔ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے
انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔

”بس بھی کرو بیٹا! کب تک لکھو گے اور کیا لکھ رہے
ہو؟“ کب اس لڑکے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور یک دم اس کا دل
دھڑک کر رہ گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ ہاں وہی تو
تھا اور وہ خاتون ”اماں“ اس نے بے خیالی میں کہا۔

”ہاں وہ اماں ہی تو ہیں میں انہیں کیسے بھول گیا؟“
اب وہ لڑکا ان خاتون سے مخاطب تھا۔

”اماں آپ جانتی ہیں ماں مجھ ان کی محبت میں جاگنا

نعتیں لکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی محبت میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جانا چاہتا
ہوں۔ اگر اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت اس دنیا
میں کبھی ہستی سے ہے تو وہ انہی سے ہے آپ دیکھیں ان
کی محبت ان کی تعریف تو صیف میں میں نے کتنی خوب
صورت نعت لکھی ہے۔“ اس نے کاغذ اپنی اماں کی طرف
بڑھایا اور یک دم دنگ اسکرین سے منظر یک دم غائب ہو گیا
تھا اب ایک بار پھر سڑک نظر آنے لگی تھی۔

تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں
تو سمندر میں تھگی ہوئی پیاس ہوں
میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر
سدرۃ المنتہیٰ تو کجا من کجا

اسے یاد آ گیا تھا یہ آواز اس کی تھی خود اس کی اپنی
آواز۔ یہ نعت اس نے نعتوں کے عالمی مقابلے میں پڑھی
تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو نم محسوس کیا تھا ہاتھ لگانے پر
پتہ چلا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا وہ کہاں
سے چلا تھا؟ کہاں چل رہا تھا؟ اور کہاں جائے گا؟ اس نے
سڑک پر نگاہیں جماتے ہوئے سوچا تھا۔

ڈنگ گاؤں جو حالات کے سامنے
آئے تیرا تصور مجھے تھانے
میری خوش قسمتی میں تیرا امتی
تو جزا میں رضا تو کجا من کجا

”میں اپنے آپ کو جب محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا امتی دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ میں
اس امت کا ایک فرد ہوں۔ جسے کامل دین کامل رسول اور
کامل شریعت عطا کی گئی اور جس کے بعد نہ کوئی نئی امت
ہے اور نہ ہی کوئی نیا رسول۔“ یہ جملے اس نے ریڈیو اسٹیشن پر
انٹرویو کے دوران کہے تھے جب وہ نعتوں کے عالمی
مقابلے میں اول آیا تھا۔

دوریاں سامنے سے جوڑے لگیں
جالوں سے نکاہیں لیے لگیں
آنسوؤں کی زباں ہو میری تر جہاں

دل سے لکھے صدقہ تو کجا من کجا

اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا وہ راستہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کیا وہ اسی راستے پر سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا؟ اس نے کار روک دی تھی۔ وہ غلط راستے پر آ گیا تھا شاید آج بھی اور..... اس دن بھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے شدید جھرجھری آئی تھی اس کے ذہن میں اپنے بابا جان کے لفظ گونجنے لگے تھے۔

”رقت کا طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے وانیال! کہ انسان کے دل میں ذرہ برابر ہی سہی ایمان موجود ہے۔ اس کے نفس و اعظ کی روح مکمل طور پر نہیں مری۔ وہ اب بھی وجود میں کہیں زندہ ہے انسان کے اندر کہیں سانس لے رہی ہے۔ جسے عام انسانی آنکھ نہیں پہچان سکتی۔ جسے صرف وہ سمیع بصیر دیکھ اور سن سکتا ہے۔ جس کی بصارت اتنی وسیع ہے کہ وہ سات آسمان کے پار بیٹھ کر بھی نا صرف زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات کو دیکھتا ہے بلکہ زمین کی سات پرتوں اور سمندر کی اتار گہرائیوں میں کس وقت کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے؟ کس طرح اس کا ذکر کر رہی ہے؟ کس طرح اس سے غافل ہو رہی ہے؟ وہ سب دیکھتا ہے۔ اس کی سماعت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف زبان سے ادا ہونے والے ہی نہیں بلکہ دل میں آنے والے ارادوں کو بھی سن لیتا ہے وانیال! آپ کے دل اور ارادوں کے درمیان حائل ہے وہ اس لیے جب بھی رقت طاری ہو تو اپنے عظیم رب کی بارگاہ میں توجہ کریں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے معافی طلب کریں اور وہ رحمن و رحیم اپنے بندے کو معاف کر دے گا۔“ آواز کا تسلسل ختم ہو گیا تھا۔


”استغفار..... توجہ!“ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنا شروع کیا اور یہ جاننے کے بعد اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا کہ اسے استغفار یاد نہیں تھی۔

”یہ..... یہ..... کیسے ممکن ہے میں تو حافظ قرآن ہوں۔ میں استغفار کیسے بھول سکتا ہوں۔ مجھے..... مجھے نئی آیت پڑھنی چاہیے۔“ وہ آنسو پونچھتے ہوئے خود

کلامی کر رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا سب کچھ دھندلا تھا بہت سی آیات اس کے روبرو تھیں مگر وہ ان لفظوں کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔

”مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو آج اتنا خوش تھا پھر یہ سب مجھے آج ہی کیوں یاد دلایا جا رہا ہے۔“ کوئی جواب نہیں آیا تھا اسے اپنے ارد گرد ہر چیز تھمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔

”جو انسان اپنے خالق کے احسانات کا منکر ہو سکتا ہے تو بھلا وہ انسانوں کے احسانات کا کیونکر شکر گزار ہو سکتا ہے میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔“ اس نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ذہن ناؤف ہونے لگا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا تھا۔



اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈروم میں بیڈ پر موجود پایا تھا۔ چینی اس کے سر ہانے بیٹھی اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے تھے۔

”شکر یہ ہے ڈینی! تمہیں ہوش آ گیا۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی بخارا اتنا شدید تھا کہ دو دن تک تم بے حس و حرکت پڑے رہے ہو۔“ وانیال بے تاثر لگا ہوں سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس نے اپنا دین اپنا ایمان سب کچھ گنوا دیا تھا۔

”تمہیں پتا ہے ڈینی! ٹریک کا ٹشیل نے مجھے بتایا کہ تم دن وے میں ٹھس گئے تھے اور حیران کن طور پر تمہاری کار کسی بھی کار سے ٹکرانے بغیر بہت جیزی سے اس راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کا ٹشیل کے روکنے کے باوجود تم نے کار نہیں روکی اور جب روکی تو کار کے دروازے جام ہو گئے تھے بہت مشکل سے کھڑکیاں توڑ کر تمہیں باہر نکالا گیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کار میں انٹرنل وارننگ شارٹ ہو گئی تھی

”میں نے گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔“ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر جیننی کو مخاطب کیا۔ ایک ہفتے بعد وہ آج بیڈ سے اٹھا اور اس دوران جیننی نے اس کے رویے میں ایک عجیب تغیر دیکھا تھا اور آج تو اس نے جیننی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔

”لیکن کیوں ڈینی! یہاں کیا پرالہم ہے سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے پھر یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟“ جیننی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔

”میں نے ایک بہت اچھے علاقے میں اپنے دوست کے ذریعے گھر خرید لیا ہے اور ہم اگلے ہفتے ہی وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔“ وہ حسی انداز میں کہتا ہوا اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جیننی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا تھا ایسا جو اس کے رویے میں اتنی تبدیلی آئی مگر خود اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔



وہ قبرستان کے باہر پھلتے دھسے گھنٹے سے کھڑا تھا۔

”کیا مجھے یہاں بھی آنا تھا اور وہ بھی ان لوگوں کی قبروں پر جن کا دل دکھایا تھا میں نے اور جن سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا مجھے۔“ آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے ان پانچ چھ مہینوں میں وہ جتنا رویا تھا شاید اس سے پہلے بھی نہیں رویا تھا۔ اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔

”اور کتنا رونا ہے مجھے میرے مالک! میرے گناہوں کی سزا نہیں کیوں ملی مجھے مرنا چاہیے تھا مجھے.....“ غم کی شدت کے سبب وہ زمین پر ہی دہرا ہو گیا تھا۔ بھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اس نے سر اٹھایا تھا یہ وہی مجذوب تھے جنہیں اس نے بس اسٹینڈر پر دیکھا تھا۔

”کہا تھا ناں میں نے تجھ سے جس نے تمام جہانوں کے بادشاہ کو پالیا اس نے کچھ نہیں کھویا اور جس نے اسے گنوا دیا اس نے تو کچھ پایا ہی نہیں۔“ ان کے اس جملے نے اسے مزید شرمسار کر دیا تھا۔ اماں بابا کی موت نے اسے ویسے ہی ٹڈیال کر دیا تھا اب تو وہ آہ دہکا کرنے لگا تھا۔

جس کی وجہ سے کار میں دھواں پھیل گیا تھا اور تم بے ہوش ہو گئے۔“ جیننی ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ اپنی گزشتہ دونوں کی ٹینشن ریلیف کرنا چاہتی ہے۔ دانیال نے کوئی جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی تھیں۔


”میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔“ اس نے حد درجہ بے رخی سے کہا۔

”میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لادوں دو دن سے تمہارے منہ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔“ جیننی نے اس کی بے رخی کی وجہ طبیعت کی خرابی سمجھی تھی۔

”نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔“ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ جیننی کچھ ٹالیے اسے دیکھتی رہی پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے پر دانیال نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔

صرف تین چار ماہ میں میں سب کچھ بھول گیا یعنی میں نے کفر کی ہر حد پار کر دی۔ جب ہی تو میرے رب نے میرے دل میری روح سے اپنا اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹا دیا۔“ آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے وہ پھر سے اسی کیفیت کا اسی تکلیف کا شکار ہو رہا تھا۔

”مجھے معاف کر دیجیے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے خود پر اپنے آپ ظلم کیا آپ پر بہتان باندھا آپ کی پاک ذات کے ساتھ شرک کیا میں نے۔ مجھے معاف کر دیجیے میں معافی چاہتا ہوں اپنی ہر غلطی اپنی ہر خطا کی آپ تو غفور درگزر کرنے والوں میں سب سے بڑے غفور درگزر کرنے والے ہیں رحم کیجیے مجھ پر۔ معاف کر دیجیے مجھ پر۔“ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے وہ عجیب احساس شرمندگی کا شکار تھا۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔



”یا اللہ پاک میری مدد فرما میں نے ان دلوں کی زندگی میں ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا مگر میرے مالک! اب مجھے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی توفیق تو عطا کر دے۔ مجھے یاد نہیں مگر ٹو میری مدد فرما میرے قلب کو توفیق عطا فرما۔“ وہ کتنی ہی دیر اسی طرح گزرا اتار ہا اور پھر اسے توفیق عطا کر دی گئی تھی اسے بخش دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں میں جنبش محسوس کی تھی وہ فاتحہ پڑھ رہا تھا ان کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل کو تسکین مل رہی تھی وہ اٹھ بیٹھا کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد وہ باہر آ گیا تھا اسے پتا تھا یہاں سے جانے کے بعد اسے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ایک بار پھر اسے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔



”تم اس لڑکی سے دور ہو وہ ٹنڈے بنتے تمہیں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا جب کہ تم دیکھ چکے تھے خواب میں کہ وہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا رہی ہے۔ تمہیں بہکا رہی ہے پھر بھی تم اس کے پاس گئے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اسلام کے بارے میں معلومات لینے کی؟ تم نے نہیں پڑھا انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور ہمیں ان کا دین پوری دنیا میں پھیلا نا ہے۔“ وہ کچھ دیر پہلے ہی قادر جوزف کے پاس سے آیا تھا۔ عبیرہ کے پچھرنے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اسی لیے وہ قادر جوزف کے پاس چلا گیا تھا مگر قادر جوزف نے سب کچھ جاننے کے بعد عبیرہ کے بارے میں جو کہا تھا وہ جان کے لیے حد درجہ ناگوار تھا لیکن وہ ان کی عمر اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے خود کو ملامت کرتا گھر واپس آ گیا تھا۔ میرس پر کھرا وہ آسمان پر پھیلے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔

”کیا ہے سچ؟ وہ جو عبیرہ کہتی ہے یا پھر وہ جو قادر جوزف کہتے ہیں؟ میں ان سب باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں جن پر عبیرہ یقین رکھتی ہے اس کی باتیں مجھے میرے دین کے بارے میں مشکوک کرتی ہیں۔ کیا ہم غلط ہیں؟

”وہ جب بڑھ پاتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے اس سے مانگ تسکین صبر اور اس کی مدد پھر دیکھ تو زمین کو رحیم ہی پائے گا۔ بندہ بدلتا ہے مولیٰ نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اپنا محتاج رکھنا چاہتا ہے انہیں ان کے فیصلوں میں آزادی دے کر بھی۔ وہ بے تاج بادشاہ ہے اس دنیا کا بھی جہاں تک تیری نظر پہنچ سکتی ہے اور اس کا بھی جو تجھ سے پوشیدہ ہے۔ تو بہ کراہی ہر غلطی سے اور جھکا دے اپنا سر اس وحدہ لا شریک کے آگے۔ سجدہ کر اس رب رحیم کو جو مانگنے پر بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے پر بھی۔ جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ مانگ اسی سے مانگ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے ضرور کرے گا۔ حق اللہ موجود اللہ سب کا خالق تو اللہ کرم کرے گا تو حق اللہ۔“ وہ بزرگ اپنا مخصوص جملہ دہراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھا اور قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں آدھے گھنٹے پہلے کے واقعات گردش کرنے لگے تھے۔

وہ گاؤں آیا تھا اپنے ماں باپا سے ملنے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے۔ وہاں آ کر اسے پتا چلا تھا کہ اس کے جانے کے دو ہفتے بعد ہی وہ دونوں خالق الہی سے جا ملے تھے۔ نائلہ کی شادی ہو چکی تھی اس کے باپا کے ایک قریبی دوست نے اسے بتایا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ دنیا ال بہت جلد واپس آئے گا اس لیے نائلہ کی شادی کے بعد گھر کے کاغذات بھی انہوں نے اس کے نام کر دیئے تھے۔ جھگی پلکوں سے کتبے پڑھتے ہوئے اس کا دل بو جھل ہونے لگا تھا وہ دونوں قبریں برابر برابر تھیں اور ایک بڑا سادہ تخت ان پر سایہ فلن تھا۔ وہ قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔

”مجھے معاف کر دیجیے ماں نہا! مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کی زندگی میں میں نے آپ کو بہت دکھ دیئے لیکن میں نے اپنی بدسلوکی کا پھل پالیا ہے۔ آپ دونوں ناراضگی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے اور میں آپ کا خری ہار دیکھ بھی نہیں سکا۔“ وہ روتے روتے زمین پر ہونے لگا تھا۔

”مجھے نہیں پتا مادہ میرے لیے نہیں ہے پھر بھی میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ میں خود کو اس کے آگے بہت بے بس محسوس کرتا ہوں۔“ اس کے ہر ہر لفظ میں بے بسی تھی۔ انہیں ترس آیا تھا اس پر۔

”تم یہ کیا کہہ رہے ہو جان! اپنی زندگی ایک ایسی لڑکی کی محبت میں تباہ کر رہے ہو جو کسی بھی طور پر تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔“ ان کے لہجے میں افسوس تھا اور جان نے چونک کر انہیں دیکھا ان کی بات میں صرف ایک لفظ ہی تھا جس نے جان کو بری طرح چونکا دیا تھا۔

”محبت۔“ اس نے حیرت سے وہ لفظ دہرایا۔

”رینا ایک بہت اچھی لڑکی ہے تمہیں بہت خوش رکھے گی۔“ انہوں نے اس کی دل جوئی کرنا چاہی مگر اب وہ ان کی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ آج تک خود جس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا انہوں نے اسے پہنچا دیا تھا۔

”میں نے کب محبت کی اس سے؟“ ذہ اب بھی خود سے ہم کلام تھا۔

”جان! میں تم سے مخاطب ہوں تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟“ انہوں نے بہت تیز لہجے میں کہا۔ جان نے بے تاثر لگا ہوں سے انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔

”کہاں جا رہے ہو جان!“ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔

”جس سوال کا جواب میں خود ڈھونڈ نہیں پایا اس کا جواب مجھے آپ نے دے دیا ہے ماہ۔ مجھے آج تک میرے لیے اپنے جذبات سمجھ نہیں آئے تھے مگر آج مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ محبت تھی۔ اس لیے اب کسی اور کی بات سننا بھی میرے لیے بے معنی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ جنیفر آئی کوئٹھ کر دیں میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔“ اس نے بہت مضبوط لہجے میں کہا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور وہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھیں۔

اگر ہم غلط ہیں تو پھر صحیح کون ہے؟“ اس کا دل مخاطب تھا اور اس کے لب خاموش تھے۔

”میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں مگر میں غلط ہوں اور اگر میں صحیح ہوں تو میں اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔“ اس کا دل ایک بار پھر مخاطب ہوا۔

”جان! مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے ڈرائنگ روم میں آ کر ملو۔“ اس کی ماما نے بہت تیز لہجے میں کہا تھا اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور میکا کی انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے پتا تھا فادر جوزف نے ماما کو سب کچھ بتا دیا ہوگا اس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی ماما اس سے مخاطب ہوئیں۔

”جان! میں نے سوچا ہے کہ تمہارا فائل ایئر ہونے کے بعد تمہاری شادی کروں اسی لیے میں اگلے ہفتے تمہارے بابا کی برسی کے بعد تمہاری اور رینا کی منگنی کر رہی ہوں۔“ ان کی یہ بات سن کر جان سنائے میں آ گیا۔ کچھ لمحے اس کی زبان سے کوئی بات ادا نہیں ہو سکی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹی میں لے کر کچھ دیا ہو۔

”ماما! مم..... میں شادی نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہوں۔“ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے رینا ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور وہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔


”یہ تو کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے جان! انہوں نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ بے جان ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔

”مجھے نہیں پتا لیکن میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔“ جان کا لہجہ بہت کمزور تھا۔

”کسی اور؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟“ انہیں حیرت ہوئی تھی مگر جواباً وہ خاموش رہا تھا۔

”کیا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟“ انہوں نے کن اکھیروں سے اسے دیکھا۔ ”یہ وہی مسلمان لڑکی تو نہیں ہے جان! جس کے بارے میں مجھے نور جوزف نے بتایا ہے۔“

”ہے..... میرا“ ان کے لہجے میں کچھ حظلی تھی۔



میرا لیکچر کتنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہے۔“ عیبرہ کے لہجے میں غلطی نہیں تھی۔

”میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟“ جان نے اب بھی مدہم لہجے میں پوچھا۔

”جی!“ اس نے عالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور عالیہ نے مسکرا کر اسے گھورا جب کہ عیبرہ صرف کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ جان ٹیبل کے دوسری طرف ایک چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ دونوں اس کے مخاطب ہونے کا انتظار کرنے لگی تھیں مگر وہ سر جھکائے خاموش ہی بیٹھا رہا تھا۔ عالیہ نے تکیکھی نظروں سے عیبرہ کو دیکھا اور کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

”عیبرہ میں کلاس میں جارہی ہوں تم فری ہو کر آ جانا۔“ عیبرہ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نظر انداز کرتی چلی گئی تھی۔

”مسٹر چوہان! آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟“ عیبرہ کا انداز سوالیہ تھا۔

”کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مس عیبرہ! بہت سے سوال انسان کے رد برو ہوتے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں پاتا کون سا سوال اسے مطلوبہ منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ میں اسی نکلتش میں ہوں کہ میں شروعات کہاں سے کروں؟“ جان نے اب پہلی بار سر اٹھایا تھا۔

”وہ سوال منتخب کرنا چاہیے جو اپنے آپ میں ایک دنیا ہو۔“ عیبرہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔

”جیسے؟“ جان نے سوالیہ انداز میں کہا۔

”جیسے اسلام کیا ہے؟“ عیبرہ نے بہت مدہم اور پُر سکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور جان کی نگاہوں میں ایک رنگ آ کر گزرا۔ ”آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں نا؟“ عیبرہ نے تصدیق چاہی تھی۔

”مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں مس عیبرہ! کیا ہے جو مجھے اتنا مضطرب کر رہا ہے کہ میرا دل کسی عبادت میں نہیں لگ رہا۔ میں بیٹھا تو حرج میں ہوتا ہوں مگر میرا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ میں دیکھتا کہیں اور سوچ کی پرواز کہیں

”تم یقین نہیں کرو گی عالیہ! مجھے پل بھر تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس بے وقوف انسان کو کیا جواب دوں۔ میں ایک لیکچر کے طور پر وہاں کھڑی تھی اور معلم کی طرح ہی مجھے اسے سمجھانا تھا اس لیے میں نے اسی کے کہے ہوئے لفظوں کو کچھ تبدیلی کے ساتھ کہا اور پھر ایک کے بعد ایک میرے ذہن میں پوائنٹس آ گئے اور مجھے لگا میں کسی حد تک اس کا تصور کلیئر کرنے میں کامیاب رہی۔“ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں تھیں اور اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈ رہی تھیں۔

”یہ وہی لڑکا ہے ماسی عیبرہ! جو اس دن کینٹین میں ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی بد لحاظ اور بد تمیز لگا تھا مجھے۔“ عالیہ نے تبصرہ کیا۔

”اوں ہوں عالیہ! کسی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے ایسی رائے قائم کرنا غلط بات ہے۔“ عیبرہ نے حیلے سے مطلوبہ کتاب نکالتے ہوئے کہا اور پھر وہ کتاب لیے اس ٹیبل پر پڑ بیٹھی تھیں جہاں اسٹوڈنٹس کم تھے۔

”کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مس عیبرہ!“ ایک مدہم اور مانوس آواز پر ان دونوں نے نگاہیں کتاب سے ہٹا کر سر اوپر اٹھائے تھے۔ بلیک بلیک ڈریس پینٹ کلاٹ براؤن کلر کا سویٹر گلے میں لگا اسٹوڈنٹ کارڈ سلیقے سے بنے ہال اجلی رنگت، مگر کبھی ہوئی آنکھیں۔ کوئی پہلی بار میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لون مسلم ہے شاید اسی لیے جب ڈائریکٹر نے اس کا تعارف کرایا تھا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔

”آپ یہاں اس وقت مسٹر چوہان! ابھی تو کلاس میں دو گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہے۔“ عیبرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔

”شاید میں کلاس اینڈ نہیں کر پاؤں گا۔“ جان کا لہجہ کھویا کھویا تھا۔ ”لیکن میں ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ورنہ بھی میری وجہ سے لاسٹ ٹائم کلاس میں بہت زیادہ بد مزگی ہو گئی تھی۔“ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔

”ہمیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے بہت اچھی ڈسکشن ہوئی تھی اور مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ

ہوتی ہے۔ مجھے فادر جوزف اور ہانا نے منع کیا تھا کہ میں آپ کے لیکچرز اینڈ نہ کروں کیونکہ ایسا کرنے سے چیزز مجھے سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ ویسے بھی مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں ان کی صلیب نہیں پہنتا اور.....“

ایک لمحہ رک کر اس نے نگاہیں اٹھا کر عمیرہ کو دیکھا۔
 ”مجھے خواب میں اذان سنائی دیتی ہے۔“ اس نے اپنے جملے کے ساتھ عمیرہ کی نگاہوں میں حیرت ابھرتی دکھائی تھی۔ ”پہلے میں ان جادوئی لفظوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا لیکن ایک دن جب میں عدیل کے گھر تھا تو میں نے خواب کے علاوہ حقیقت میں اذان سنی۔ میں نے یہ بات ماما کو بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنا زیادہ وقت فادر جوزف کے ساتھ گزاروں۔ تبلیغ میں ان کے ساتھ جاؤں صبح شام چرچ جاؤں کنڈیلز جلاؤں لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی میرے ذہن سے وہ آواز نہیں ہو سکی۔ میں مضطرب ہی رہا اور یہ مضطرب اس وقت اور بھی بڑھا جب میں نے آپ کا پہلا لیکچر اینڈ کیا۔ آپ نے لیکچر کے لاسٹ میں جو لائنز کہیں انہوں نے مجھے سمجھنا جوڑ کر رکھ دیا ”ہم پر سب سے پہلا حق ہمارے خالق کا ہے اس کے بعد کسی دوسرے کا۔ وہی سب سے زیادہ مستحق ہے ہمارے سجدوں کا ریاضتوں کا اور کوئی بھی اس سب میں اس کا شریک نہیں۔“ اس نے جان کو دیکھا تھا اسے حرف بہ حرف عمیرہ کی بات یاد تھی۔

”میں بہت دنوں یہی سوچتا رہا کہ خرابی نے چیزز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہم تو اپنی تمام تر ریاضتوں کا صحیح حق دار چیزز کو ہی سمجھتے ہیں صبح چرچ میں جا کر ہم لوگ انہی کی صلیب کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ انہی کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر بائبل پڑھتے ہیں لیکن آپ کی باتوں نے میری عبادتوں میں خلل ڈال دیا۔ آخر اسلام میں ایسا کیا ہے جو مسلمان عیسائیوں کی نہیں مانتے؟ مگر میرے پاس کوئی دلیل کوئی جواب نہیں تھا آپ کی طرح اور آپ کے لاسٹ لیکچر نے تو مزید الجھا دیا مجھے میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ اور فادر جوزف میں سے کون صحیح ہے

میں خود کو کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لائق نہیں کیونکہ میرے پاس کوئی علم نہیں جس سے میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ کون حق پر ہے۔ میرا علم محدود ہے اپنے دین کے حوالے سے اور کسی اور دین کا علم میں نے آج تک حاصل نہیں کیا تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔“ وہ ایک طویل گفتگو کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔

”مسٹر جان!“ عمیرہ نے پہلی بار اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ ”میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔“ جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ”کیونکہ اسلام وہ مذہب نہیں جو انجنوں سے پچھا چھڑانے کے لیے اختیار کیا جائے یا کسی زور زبردستی یا پھر کسی انسان کے لیے اختیار کیا جائے۔ یہ پریکٹیکل سوچ رکھنے والے انسان کا مذہب ہے جسے انسان صرف ایک اللہ کے لیے اس کی محبت اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے اور صرف دعا ہی نہیں دلی طور پر اسے تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق دماغ سے نہیں دل کی گہرائیوں سے ہے جسے اللہ عزوجل نے اپنا گھر بنایا ہے۔ اسلام وہ شیخ ہے جو ہوتی تو دل میں روشن ہے مگر اس کا نور گردش خون کے ساتھ سفر کرتا ہے اور انسان کا پورا وجود منور ہو جاتا ہے یہ نور انسان کو وہ بصارت عطا کرتا ہے جس سے وہ قدرت کی تخلیقات میں اپنے رب کی حکمتوں کو تلاش کرتا ہے یہ وہ واحد دین ہے جسے آج تک زور بازو سے نہیں بلکہ خلوص و اخلاق کی جنگ سے رائج کرایا گیا ہے۔“ عمیرہ نے بہت مدہم پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ جان کو اس کی بات پر رشک نہیں تھا یقیناً یہ عمیرہ کا خلوص و اخلاق ہی تو تھا کہ جان کی گزشتہ بدتمیزی کے باوجود وہ آج بھی اسے سمجھا رہی تھی اس کے بگڑے ہوئے ویوز کو ایک بار پھر نئی راہ دکھا رہی تھی۔

”میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ہر دین کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد آپ اسلام سے بہتر کسی کو نہیں پائیں گے۔ آپ نے جس انجیل کو اپنا رہنما مانا ہے وہ تحریف شدہ ہے اس میں آپ کے آباء اجداد نے اپنی

منزل انہی کے قدم چومتی ہے جو صبر کرتے ہیں، مشکلیں برداشت کرتے ہیں۔" عبیرہ نے محل سے کہا اور جان شرمندہ ہو گیا تھا۔

"آئی ایم سوری!"

"کوئی بات نہیں یہ انسان کی فطرت ہے اسے ہمیشہ

وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ چاہئے ہوتا ہے۔ خیر

کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس بات پر یقین

نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، مٹی کی

انجیل کے مطابق انہیں موت کے گھٹ اتارا گیا پھر دفنایا

بھی گیا اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے ان کی روح کو

دیکھا لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اللہ پاک نے خود

اس حقیقت کو واضح فرما دیا ہے قرآن کریم میں کہ حضرت

عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا اور ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کی

شکل دے دی گئی جسے سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کے آباؤ

اجداد یہ سوچتے رہے کہ وہ واؤ بہترین طریقے سے جیت

گئے مگر حقیقتاً اللہ عزوجل نے نبی کوئل کرانے کی سازش کی

سزا میں انہیں پہنچائی کی گراہی عطا کر دی۔ ان کے دلوں کو

سخت کر دیا کہ حق کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے

حق کو بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی قوم تین فرقوں

میں بٹ گئی ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول

ہی مانا دوسرے وہ جنہوں نے انہیں بن اللہ کہا اور تیسرے

وہ جو تثلیث کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔" عبیرہ اب

خاموش ہو گئی تھی۔

جان کو لگا کہ اب اس کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے

نہیں بچا۔ عبیرہ نے تو اسے اس کے دین کے بارے میں

وہ باتیں بھی بتائی تھیں جو خود اسے بھی نہیں معلوم تھیں۔

"جستجوہ چیز ہے مسٹر جان! کہ جب انسان کے دل

میں پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو بھی اپنی

جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ ڈھونڈیے اپنے اصل دین کو جو آپ

کے آباؤ اجداد نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے۔" عبیرہ

بات مکمل کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

"اوکے اب آپ کلاس میں آئیں۔" اس نے بہرے

مرضی کی باتیں اپنے فائدے کے لیے شامل کر دی ہیں کیونکہ یہود و نصاریٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے جب کہ خود انجیل اور تورات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی موجود تھی۔" جان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔

"آپ کس بنیاد پر ہماری کتاب کو تحریف شدہ کہتی ہیں

مس عبیرہ! آخر آپ کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے جس

کی بنیاد پر آپ یہ بات کہتی ہیں؟" جان مکمل طور پر اپنے

دل کی تسلی چاہتا تھا۔

"قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور وہ اللہ

پاک کی وہ آسمانی کتاب ہے جس میں چودہ سو سال

گزرنے کے بعد بھی تحریف نہیں ہوئی۔" عبیرہ ایک لمحے

کے لیے رکی تو جان فوراً بولا۔

"آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی کتاب میں

تحریف نہیں ہوئی؟"

"کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے

خود اٹھایا ہے اور جب خالق خود اپنے کلام کا محافظ ہو تو پھر

بھلا کس کی ہمت ہے کہ اسے تبدیل کر سکے۔" اب کے وہ

خاموش ہی رہا تھا پھر بولا تھا۔

"کیا تحریف ہوئی ہے ہماری کتاب میں؟ اور کب

ہوئی یہ تحریف؟"

"اس تحریف کی ابتداء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد ہوئی۔" ایک بار پھر جان

نے اس کی بات کاٹی تھی۔

"اور یہ کب ہوا کہ چیز کو آسمان پر اٹھا لیا گیا انہیں تو

صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا

تھا بادشاہ ہیرودیس کے حکم پر پھر اس کے بعد ان کی روح کو

بارہ رسولوں نے دیکھا تھا، جنہیں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا

کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں اور انہیں ان کا دین پوری دنیا

میں پھیلاتا ہے۔" جان کو اس کی ہر بات سے اختلاف

ہو رہا تھا۔

"بے صبرے لوگوں کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آتا جان!

پر سکون لہجے میں کہا تھا۔
 ”میں نہیں آؤں گا۔“ اس نے خود کو کہتے سنا تھا مگر غیرہ بدستور مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی تھی جب کہ جان ایک عجیب انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔
 ”تس کا ساتھ تمہیں اتنا مطمئن اور خوش رکھتا ہے؟ اور کیوں میں اتنا مضطرب رہتا ہوں؟“ مگر اسے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں مل پایا تھا خود سے۔
 ”میں کیوں یہاں آتا ہوں بار بار؟ یہ آپ کی محبت ہے یا اسلام کی جستجو؟“ اس کی سوچیں منتشر تھیں۔



”حد ہوگئی ہے غیرہ! ایم کی اتنی اپورٹنٹ اور لاسٹ کلاس تم نے اس لڑکے کی وجہ سے چھوڑ دی۔“ عالیہ بہت زیادہ خفا نظر آ رہی تھی۔ ”ایسا کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ تم سے جو میرے سامنے اس کے منہ سے نہیں نکلا؟“ عالیہ کا لہجہ تجسس تھا اور غیرہ نے رجسٹر سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔

”تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟“ غیرہ کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔

”اے نہیں غیرہ! تم میرا مطلب غلط لے رہی ہو۔“ عالیہ بوکھلا گئی تھی۔ ”میرا مطلب تھا کہ ایسا کون سا گناہ تھا جس کا اعتراف وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔“ عالیہ نے اسے سوالات کی وضاحت کی تھی۔

”وہ کسی گناہ کا اعتراف کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف اپنے احساسات کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔“ غیرہ نے پرسوج لہجے میں کہا۔

”ایک بات کہوں غیرہ! اگر تم مائنڈ نہ کرو؟“ عالیہ نے بہت محتاط لہجے میں کہا۔

”اگر خلاف توقع نہیں ہوگا تو یقیناً مائنڈ نہیں کروں گی۔“ غیرہ نے مسکرا کر کہا۔


”میں نے محسوس کیا تھا کہ دوسرے نامحرم لڑکوں کے مقابلے میں اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے تمہارے لہجے میں بہت سا کھل گیا۔“ غیرہ نے ہنسنے لگا کر

بہت غور سے عالیہ کو دیکھا تھا۔
 ”تمہیں پتا ہے عالیہ! جب ہم نے کینٹین میں اسے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے وہ حد درجہ بدتمیز انسان لگا تھا جسے خواہ مخواہ دوسرے لوگوں پر تبصرہ کرنے کی بیماری ہے مگر میں غلط تھی۔ دوسری بار جب اس نے میرا لیکچر اینڈ کیا تو مجھے لگا تھا کہ شاید وہ صرف تفریحاً وہاں آ گیا تھا لیکن میں تب بھی غلط تھی اور تیسری بار جب میلا دو الے دن میں نے اسے خود کو گھورتے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا لیکن اس کے بعد کی تمام ملاقاتوں میں میرا اس سے انٹریکشن ایک معلم اور طالب علم کا رہا اور میری اس کے بارے میں قائم شدہ ہر رائے غلط ثابت ہوئی کیونکہ میں نے اسے ان لوگوں میں نہیں پایا جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ ”ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں کہ حق بات سننے سمجھنے اور دیکھنے سے قاصر ہیں۔“ بلکہ میں نے محسوس کیا وہ ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا: ”اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔“ اور جسے اللہ رحیم و کریم اپنی رحمت اپنے کامل دین کے لیے خاص کر لے اس کے بارے میں ہم تم جیسے لوگ کچھ بھی سوچیں کچھ بھی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ رحمت کی نگاہوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے انہوں نے لیکن وہ کیا فعل ہے جس نے اسے رب کائنات کی نگاہوں میں اتنا بلند کیا کہ اس کی پاک ذات نے اس کے کبیرہ گناہ اس کے شرک کو بھی نظر انداز کیا اور اسے اپنے پسندیدہ دین اپنی سب سے بڑی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے عالیہ کہ اس نے کبھی دل سے شرک کیا ہی نہ ہو بس جب میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں تو میرے دل میں اس کا احترام بڑھنے لگتا ہے شاید یہ اللہ کی مرضی ہے جو مجھے اس سے نرم گفتار ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔“ غیرہ آج پہلی بار عالیہ کو مجب محبت کا شکار محسوس ہوئی تھی۔

”کیا تمہیں اندازہ ہے غیرہ! تم کیا کہہ رہی ہو؟“ عالیہ نے تصدیق چاہی۔

”ہاں عالیہ! مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں

دیکھ سکتی ہوں اس کی نگاہوں میں حقیقی رت کی جستجو ہے۔ وہ تلاش کرنا چاہتا ہے دین حق کو اور یہ جستجو اللہ صرف ان ہی کو دیا کرتا ہے جن کے دل میں وہ ایمان کی ہلکی سی روشنی بھی دیکھتا ہے اور اس کے دل میں وہ روشنی ہے عالیہ! مگر فسوس یہ ہے کہ نہ تو وہ اس روشنی کو محسوس کر پارہا ہے اور نہ ہی سمجھ پارہا ہے۔ ”غیرہ کہتی جا رہی تھی اور اس وقت خود اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ جس نور ہدایت کی بات کر رہی ہے جان اس سے بے خبر نہیں بس وہ اس کے لیے نور ہدایت نہیں بلکہ خود ”غیرہ عباد“ ہے۔



وہ جب سے گھر آیا تھا تب سے غیرہ کی دی ہوئی اس کتاب کو دیکھ رہا تھا جو کلاس کے اختتام پر غیرہ نے اسے دی تھی۔ وہ انکار کے باوجود اس کی کلاس اینڈ کرنے گیا تھا۔ وہ اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس نے کوشش کی تھی۔

”کیا مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟“ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ ”اگر مانا کو پتا چلا تو کیا ہوگا؟“ اس کے دل کو ایک عجیب خدشہ لاحق ہوا تھا۔ ”میں ہرگز نہیں

کہوں گی کہ آپ دین اسلام قبول کر لیں۔ اس کے کالوں میں غیرہ کی آواز گونجی تھی۔

”اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو پھر آپ نے مطالعہ کے لیے مجھے اپنی کتاب کیوں دی؟“ اس نے کتاب کے فرنٹ پیپر پر نظر ڈالی تھی جس پر لکھا تھا۔ ”عقائد اسلام“ اس نے ڈرا ز کھول کر کتاب اس میں رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے غیرہ کے آج کے پیچھے پر غور کرنے لگا تھا۔

”توحید سے مراد اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا و تمیز اور متفرد ماننا“ کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل سے تسلیم نہ کر لے کہ اللہ عزوجل اپنی ذات میں اکیلا ہے یعنی اس کے مثل کوئی نہیں اور نہ ہی کسی کو اس قدر حیثیت حاصل ہے کہ اس کے اوصاف میں اس کا شریک و محرم بن جائے یعنی اگر وہ برے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے تو بہتر ہوگا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ عزوجل جیسے اوصاف رکھتا ہے نہ تو یہ دعویٰ آج تک اللہ کے کسی ماننے والے نے کیا ہے اور نہ کسی دوسری مخلوق نے جیسے جنات۔ ہاں اگر انہوں نے ضرور کیا جو اللہ کو نہیں

بھیکا سمبر نکھرا سال

گزرتے لیل دنہار میں اس گزشتہ ماہ و سال میں جہاں بیگا سمبر نکھرا سال پہنچا ہے، وہیں 2014 کا سال بھی قصہ پارینہ کا حصہ بننے کو بے تاب ہے۔ تاریخ کا ایک اور باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ماہ و سمبر کی اداس و بے بسی شامیں اور نکھرا لوہے کی اداسی کے پیرہن میں پٹی اس سال کو الوداع کر رہی ہیں۔ جہاں یہ سال رخصت ہونے کو ہے وہیں 2015ء کا آ کتاب سچ امیدوں کے نئے جگنو تھا کر ہمیں اپنی بانہوں میں سمونے کو بے قرار ہے۔ خوش آئندہ مستقبل کی امید لیے نئے خوابوں کی جوت جگائے، جہاں ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں وہیں ایک سال یادوں کے ان مٹتے نقوش ہمارے ذہن پر مرتب کر کے کتاب ماضی کا حصہ بن جائے گا اور ساتھ ہی ہماری زندگی کا ایک سال خاموشی سے ہماری کوتاہیوں پر فسوس کرتا ہم سے ہچمڑ جائے گا۔ ہماری جانب سے قارئین کو سال نو مبارک ہو، نئے سال کے حوالے سے خصوصی سروے کا اہتمام کیا گیا ہے سوال یہ ہیں۔

- 1- آپ کے نزدیک ”سمبر استعارہ ہے“ خوشی کا یا غم کا اگر دونوں کا تو کیوں کر؟
 - 2- گزشتہ سال آپ کے لیے کون سی خوشگوار و ناگوار تبدیلیاں لائے کا سبب بنا؟
 - 3- اس سال آپ کی ذات میں رونما ہونے والی کوئی اچھی بات یا آپ کی دیرینہ خواہش جو رواں سال پوری ہوئی؟
 - 4- اس نئے سال میں آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟
 - 5- اپنے وطن عزیز کے لیے نئے سال میں کیا سوچ رکھتی ہیں؟
 - 6- نئے سال کو کس طرح خوش آئندہ نہیں کریں؟
 - 7- نئے سال میں آپ ماہنامہ آہل میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہیں؟
- ان سوالات کے جوابات مختصر اور جامع تحریر کر کے ہمیں 8 دسمبر تک ارسال کر دیں۔

ہندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کا ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔“ اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی فرمایا: ”اور تا کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان کے آباؤ اجداد کے پاس تھی۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بولتے ہیں۔“

ایک دم دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ملا اندر داخل ہوئی تھیں اور ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ ”کیا ہوا ملا! سب ٹھیک تو ہے؟“ اس نے انہیں تھامتے ہوئے پوچھا۔

”جان! تمہارے تانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ تم پیکنگ کر لو، ہم تمہارے بابا کی برسی کے بعد ہی واپس آئیں گے۔“ وہ بہت تیزی سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ جان چند ٹاپے حیران پریشان کھڑا رہا تھا پھر الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے کپڑے فولڈ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ گردش کرنے لگی تھیں۔

”کل کا بیبرہ کا لیکچر مرس ہو جائے گا اور پھر کل کلاسز کا بھی لاسٹ ڈے ہے۔ ایک ہفتے بعد بیبرہ زہوں گے اور پھر یونی سے میرا تعلق ختم، میرا ماسٹر مکمل ہو جائے گا۔ یونی سے تعلیم ختم یعنی بیبرہ سے رابطہ ختم۔“ اس کے کپڑے فولڈ کرتے ہوئے ہاتھ یک دم ختم گئے۔ ”اومائی گاڈا“ وہ بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ”اب میں سمجھا آپ نے مجھے کتاب کیوں دی تھی بیبرہ! آپ جانتی تھیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی کل نہیں آتی اور اسی لیے آپ نے مجھے کتاب دی کہ اگر آپ مجھ سے نکل سکیں تو وہ کتاب مجھے صحیح اور غلط کا فرق بتا دے۔“ وہ بے خیالی میں بڑبڑاتا چلا گیا تھا۔

(جاری ہے)



مانتے تھے جیسے فرعون و فروداب یہاں زیر غور بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کے منتخب شدہ ہونے کے باوجود تھے بشری ان کا درجہ ان کا رتبہ بے شک اور بلا شبہ عام انسانوں سے بلند ہے لیکن اللہ عزوجل کے مقابل ہرگز ہرگز نہیں اور جب انبیاء کرام علیہم السلام اس کے برابر نہیں تو عام انسان جیسے عارفین، اولیاء کرام، علماء، فقہاء وغیرہ۔ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو رزق ہی پہنچا سکیں، کسی کی کوئی مراد منت پوری کرے۔ اللہ پاک خود اگر چاہتا ہے تو اپنے اختیارات میں بہت قلیل حصہ اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو عطا کر دیتا ہے جیسے اس نے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا کیے تھے۔ جیسے اس نے حضرت سلیمان کو ہر جان دار کی زبان سکھائی، جنت کو قابو کرنے کا فن عطا کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے بتایا کہ دھوپ میں کبھی ان کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ وہ اسی تھے مگر عقل و فہم کی وہ باتیں لوگوں کو بتاتے جو ان کے وقت کے قائل سے قائل لوگ بھی نہ بتا سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے انگشت کے اشارے سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اسی طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے جیسے اندھوں کو آنکھ یعنی پیرانی عطا کر دینا، کوڑھی کو ٹھیک کر دینا، مردوں کو جلا دینا اور مٹی سے پرندے بنا کر انہوں نے زندہ کیے مگر ان تمام معجزات میں کسی بھی نبی یا رسول کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا مگر ہم نفس کے تابع انسانوں نے ان معجزات کی بناء پر انہیں اللہ کا درجہ دینا شروع کر دیا اور کچھ نے جیسے یہود و نصاریٰ اپنے نبیوں کو (نعوذ باللہ) اللہ کے بیٹے ماننے لگے۔ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام امین اللہ اور نصاریٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اللہ ہیں لیکن یہ سراسر شرک ہے اللہ پر بہتان ہے اور اللہ پاک نے یہود و نصاریٰ کے اس بدقول کو اس طرح مسترد کیا ہے۔

سورۃ مریم کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے ”اللہ کی یہ نشان نہیں کہ وہ اولاد کو اختیار کرے (کسی کو کوہ بالکل پاک

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریویو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر ویو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل رینج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ ہریم کوالٹی، نارل کوالٹی، کمپریڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرٹک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب، ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety

READING Section



مانا کہ زندگی سے ہمیں کچھ ملا بھی ہے
اس زندگی کو ہم نے بہت کچھ دیا بھی ہے
ہم پھر بھی اپنے چہرے نہ دیکھیں تو کیا علاج
آنکھیں بھی ہیں، چراغ بھی ہے، آئینہ بھی ہے

”اللہ اکبر... اللہ اکبر“ اس نے بچے کو ہاتھ میں لیتے ہی پہلے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور پھر اس کے کان میں اذان دی اور مخاطب ہوا۔

”تم مسلمان ہو میرے بیٹے! تم نے مسلمان گھر میں آنکھیں کھولی ہیں۔ تمہارے باپ کا اختتام بھی ایمان پر ہوگا ان شاء اللہ اور میری دعا ہے تمہارے لیے کہ تم بھی اپنی زندگی ایمان کی راہ پر سفر کرتے ہوئے گزارو۔ میں تمہیں اسلام کی تعلیم کرتا ہوں، اسلام سب سے بہتر دین ہے اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں اس لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی حقیقت مت بھولنا، میں رہوں نہ رہوں حق کا راستہ مت چھوڑنا۔ ہم سب کا رب ایک ہی ہے اللہ عزوجل اور وہی عبادت کے حقوق کا وارث ہے اس کا حق مت مارنا، کبھی بھی اس کی محبت کو اپنے دل سے محو مت ہونے دینا، ایمان قائم رکھنا، ایمان قائم رکھنا۔ میں تمہارا نام اذان رکھتا ہوں۔“

”اذان“ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے اس کے مومن بندوں کے لیے اور میں تمہیں ان مومنوں میں سے ایک دیکھنا چاہوں گا اذان۔“ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بچے کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔

”میں نے اپنے دین کو چھوڑ کر جو کبیرہ گناہ کیا تھا اس کی سزا میں نے یہاں تو نہیں پائی لیکن وہاں مجھے اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی اگر تم نیک اور صالح بنے اذان تو میری بخشش ممکن ہو جائے گی۔ اب میری آخری زندگی کی رہائی تمہارے عمل پر ہے بیٹے!“ اس نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کا بوسہ لیا۔


”سر آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے۔“ نرس نے بتایا تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا بچے کو گود میں اٹھائے وہ روم میں آ گیا۔ جینی اسپتال کے ہیڈ ریلیٹی مسکرا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے نزدیک رکھا اسٹول پر بیٹھ گیا اور اذان کو جینی کے برابر لٹاتے ہوئے اس نے مسکرا کر جینی کو دیکھا۔ جینی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دانیال نے کتنے وقت بعد اسے مسکرا کر دیکھا تھا، مگر وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔

”میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ۔ تمہیں پتا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اذان رکھا ہے۔“ اس نے خود ہی سوال کیا اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ جینی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔

”جینی میں تم سے ایک بار پھر مسلمان ہونے کی درخواست کرتا ہوں۔“ اس نے نرم لہجے میں کہا۔

”دیکھو دانی! تم نے دوبارہ اپنا مذہب اختیار کیا، میں نے تمہیں نہیں روکا، تم نے ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود مجھے بالکل تنہا کر دیا، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہنسا بولنا بات کرنا سب ترک کر دیا، میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا اور آج میری مرضی کے بغیر تم نے میرے بیٹے کو مسلمان بنا دیا، میں پھر بھی تم سے شکوہ نہیں کر رہی لیکن میں اسلام قبول کر لوں یہ ناممکن ہے دانی! تمہاری اس دین سے محبت مجھے اس دین سے نفرت بڑھانی جاتی ہے۔“

جینی نے حد درجہ نفرت سے کہا اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، جب کہ دانیال اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔



”آج اذان پورے ایک ماہ کا ہو چکا تھا جینی اسی لیے میں تم سے یہ بات بہت واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو ورنہ.....“ وہ ایک لمحے کے لیے رکھا تھا۔ جینی اس وقت گارڈن میں اذان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔


”ورنہ کیا دانیال؟“ جینی نے غیر یقینی انداز میں اسے دیکھا۔

”ورنہ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ایک مشرک کی گود میں پرورش پائے۔“ اس نے بہت مختصر ہونے لہجے میں کہا اور جینی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ وہی دانیال ہے جس نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر روٹی رہی تھی وہ۔ اسے زندگی میں پہلی بار دانیال سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اس نے آنسو صاف کر کے سامنے راہداری میں بنے کمرے کی طرف دیکھا جس کے کھلے دروازے میں سے اسے دانیال نظر آ رہا تھا وہ اذان کو ہاتھوں میں اٹھائے اس کے کان میں کچھ کہتا تھا۔

”کیا باتیں کرتا رہتا ہے یہ میزبے بیٹے سے دن رات۔“ کہیں میرے بیٹے کو اپنی طرح پکا مسلمان نہ بنائے۔“ اس کے دل میں عجب ہوسا آنے لگے۔

”نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی لیکن میں کیا کروں اور چیز؟“ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔

”بی بی جی! آپ کے گھر والے آئے ہیں آپ سے ملنے۔“ ایک ملازمہ نے اندر داخل ہو کر کہا اور جینی بجلی کی رفتار سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔



دور تک پھیلا صحرا اور سوپ کی تیزی کے سبب جل رہا تھا۔ انسان تو بہت دور کی بات کسی حیوان کے وہاں ہونے کا اور وہ بھی زندہ سلامت، تصبر ہی ناممکن تھا مگر اچانک ہی بہت دور ریت کے اونچے نیچے پر سیاہ نقطہ سا بھرتا اور پھر دیر سے


دھیرے بڑھنے لگتا ہے..... وہ ایک زندہ انسان تھا۔ سر تا پیر سیاہ چادر میں ملبوس انسان۔ اس کا چہرہ اس چادر میں کہیں کم تھا، ننگے پاؤں اس پتی ریت پر چلتے ہوئے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور اس حد تک سرخ ہو گئے تھے کہ ان سے خون رسنے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ کون ذی روح تھا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس تپتے صحرا میں آ گیا تھا اب نقاب ہٹنے لگا تھا پہلے ہونٹ نمایاں ہوئے تھے ہونٹوں کی رنگت پڑیاں جننے کے سبب سیاہ ہو رہی تھی ایسے جیسے بہت مدت سے پانی کی ایک بوند بھی ان ہونٹوں کو نہ چھوئی ہو۔ نقاب مزید اوپر ہوا اور تاک کے نتھنوں کے درمیان ایک بڑی ہی بالی لگی نظر آنے لگی تھی۔ جو پرنے دور میں غلاموں کو پہنائی جاتی تھی۔ نقاب مزید اٹھا تو ایک دم فضا میں بھونچال سا آ گیا وہ بڑی بڑی سپاہ آنکھیں ایک بار اس کے رو بہ نہیں مگر آج ان میں وہ نور نہیں تھا، وہ بہت اجاز ویران ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سے بہنے والے آنسو بہت زیادہ مجبوری اور بے بسی کا تاثر لیے ہوئے تھے یک دم ہی صحرا میں ایک طوفان اٹھنے لگا تھا اور ریت کے گولے اسے اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے اور پھر سب کچھ گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔

اس نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولیں اس کا دل بہت بے ترتیب دھڑک رہا تھا اس کا وجود شدید ٹھنڈک کے باوجود سینے میں شرا ہو رہا تھا۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ صحرا نہیں بلکہ وہ نہر تھی جس کے کنارے وہ بیٹھا تھا اپنی خالہ کے گھر سے واپسی پر۔ وہ جب بھی اپنی ماما کے ساتھ ان کے قصبے تا تو اپنی خالہ کے گھر ضرور جایا کرتا تھا گو کہ اس کی ماما اور نانا تانی خالہ سے نہیں ملا کرتے مگر وہ پھر بھی جاتا تھا ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اور آج بھی گیا تھا ہمیشہ کی طرح واپسی پر وہ نہر کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو گہری نیند کی آغوش میں اس نے عمیرہ کو دیکھا اور وہ بھی اتنی بری حالت میں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا خواب کیوں دیکھا اس نے نہر کا ٹھنڈا پانی چہرے پر ڈالا تو اس کی حالت کسی حد تک بہتر ہوئی تھی اور دماغ کچھ

سوچنے کے قابل ہوا تھا۔

”کہیں ایسا تو نہیں کہ عیبرہ کسی پرابلم میں ہو۔“ اچانک ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس نے فوراً سوہائل نکال کر عدیل کا نمبر ڈائل کیا مگر جان کی قسمت آج اس کے ساتھ نہیں تھی بارہا ملانے کے باوجود بھی عدیل کا نمبر نہیں مل رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں سنگلز نہیں آ رہیں۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ درخت پر مارا اور اس کے ہاتھ سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ اس نے ہتے خون کو دیکھا۔

”اگر انسان کو لگے کہ اس پر یا اس کے کسی اپنے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنی یا اس شخص کی طرف سے صدقہ کرنے سے وہ مشکل یا توکل جائے گی یا پھر کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ صدقہ و خیرات کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جیسے غریب اور مسکین کو کھانا کھانا آبی مخلوق کو کھانا یعنی فوڈ دینا۔ چرند پرند کو دانہ وغیرہ ڈالنا بھی صدقہ و خیرات کی قسمیں ہیں۔“ وہ تیزی سے کار کی جانب بڑھا پھر رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے ذہن میں اگلے چند گھنٹے ترتیب دیئے اسے صدقہ دینا ہے عیبرہ کی طرف سے ان تینوں طریقوں سے جو عیبرہ نے صدقہ و خیرات والے پتھر میں بتائے تھے۔



ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرار ہی تھی وہ درپتے میں پھٹی بیچ پر بیٹھا تھا۔ اس کا دل کسی حد تک مطمئن ہوا تھا وہ صدقہ کر چکا تھا عیبرہ کی طرف سے اور اب آسمان پر ٹھنڈے ستاروں کو دیکھتے ہوئے وہ اس ہستی سے مخاطب تھا جس پر عیبرہ ہر ہستی سے زیادہ یقین رکھتی تھی۔

”میں نے عیبرہ کی طرف سے صدقہ کیا ہے تیری راہ میں سچے دل سے اسے قبول فرما اور عیبرہ کو ٹھیک رکھو بہت بھروسہ کرتی ہے تجھ پر اس کا یقین ایمان اس کا دین ہے تو۔“ جان نے اپنے دل میں ایک سکون سا محسوس کیا تھا۔

”جان کہاں گئے ہوئے تھے میں کب سے تمہیں

ڈھونڈ رہی تھی؟“ اس کی ممانے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھن جوڑا اور اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔

”مما! کیا ہم ابھی گھر چل سکتے ہیں؟“ جان نے کہا۔

”کیوں..... تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟“ انہوں نے نا سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔

”میں ٹھیک ہوں! بس مجھے اپنے پیپرز کی ٹینشن ہو رہی ہے اور ویسے بھی اب تو نانا جی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے اور بابا کی برسی بھی ہو گئی ہے۔“ جان نے توجیہ پیش کی۔

”پیپرز کی وجہ سے تم نے کب سے پریشان ہونا شروع کر دیا۔“ انہوں نے ذومعنی انداز میں کہا۔

”مام پلیز! میں گھر جانا چاہتا ہوں اور بس۔“ اسے الجھن ہو رہی تھی ان کے سوالات سے۔

”اوکے چلو! میں پیکنگ کرتی ہوں۔“ انہوں نے محسوس کیا کہ جان کو ان کے سوالات سے الجھن ہو رہی ہے اسی لیے انہوں نے کوئی مزید سوال نہیں کیا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ قصبے کی حدود سے نکل رہے تھے انہوں نے محسوس کیا تھا کہ جان کا بہت تیز چلا رہا تھا اور گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے عدیل کو کال کی تھی پہلی ہی بار میں کال ریسیو ہو گئی تھی۔

”تم کہاں ہو جان اس وقت؟“ رکن علیک ہلیک کے بعد عدیل نے اس سے سب سے پہلا سوال کیا تھا۔

”میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے خود ہی تمہیں عیبرہ سے دور رہنے کا کہا تھا اب اس کی اتنی پرابلم میں تمہیں کیسے شامل کروں؟“ عدیل کے لہجے میں شرمندگی تھی۔

”کیا ہوا عدیل! عیبرہ کو..... وہ ٹھیک تو ہے نا؟“ جان کے ذہن میں اس کی خواب والی حالت ابھر آئی اور اس کا دل اس کے حلق میں آ گیا تھا۔

”وہ جیل میں ہے۔“ عدیل کا یہ جملہ جان کو سن کر گیا۔

”کیا.....؟“ اس کی آواز ڈھتی چلی گئی تھی۔

”اس پر سیتانام کی لڑکی کے انخواء کا الزام ہے ہم لوگ جیل ہی میں آئے ہوئے ہیں مگر کچھ ہو نہیں پا رہا۔ احمد کی بھی کوئی سفارش کام نہیں آ رہی سخت مشکل میں مبتلا ہیں جان! پلیز تم کچھ کرو جان! ہم علاقائی پولیس اسٹیشن میں ہیں۔“ عدیل کا لہجہ بھی تھا۔

”میں آ رہا ہوں۔“ جان نے اتنا کہہ کر کال منقطع کر دی وہ ایک لمحہ بھی صاف نہیں کرنا چاہتا تھا بہت تیزی سے اس نے اپنا رخ ممانے کمرنے کی جانب کیا وہ جانتا تھا صرف وہی واحد تھیں جو عیبرہ کو جیل کے اندھروں سے باہر لاسکتی تھیں۔

علاقائی اسٹیشن میں ڈی آئی جی کو داخل ہونا دیکھ کر سب نے ایک دم حلق و چوہ بند ہو گئے تھے۔ ڈی آئی جی کے ساتھ جان کو دیکھ کر عدیل کی جان میں جان آئی تھی جان نے بھی ان تینوں کو دیکھا تھا۔ عدیل اور احمد کے ساتھ ایک ضعیف العمر شخص تھا ان کا چہرہ نورانی تھا سفید داڑھی اور سر پر سفید عمامہ تھا۔ اس نے ایک نظر میں جائزہ لیا تھا یقیناً وہ عیبرہ کے قریب تھے۔ ڈی آئی جی کی آمد نے اسپیکٹر سب اسپیکٹر سب ہی حاضر ہو گئے تھے اسپیکٹر نے آگے بڑھ کر ڈی آئی جی سے ہاتھ ملایا تھا۔

”سر آپ یہاں..... سب خیریت تو ہے؟“ اس نے جان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

آنچل کے کسی بھی خطے میں قسم ہوں

آنچل کے کسی بھی خطے میں قسم ہوں

ہم روت ہر ماہ آپ کی دلیرانہ فرمائشیں

ایک رسالے کے لیے 12 ماہ کا رسالہ (بشمول رجسٹرڈ ڈاک خرچ)

پاکستان کے ہر کونے میں 700 روپے

افریقہ امریکا کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے

5000 روپے (ایک سالہ سہ ماہی)

6000 روپے (ایک سالہ سہ ماہی)

مینڈ ایٹ ایشیائی یورپ کے لیے

4500 روپے (ایک سالہ سہ ماہی)

5500 روپے (ایک سالہ سہ ماہی)

رقم ڈیمانڈ آرڈر سی آڈر منی گرام

ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجی جاسکتی ہیں۔

مقامی افراد دفتر میں نقد ادائیگی کر سکتے ہیں۔

اطلاع خاطر احمد علی

0300-8264242

نئے آنچل گروپ آف پبلسیشنز

کونسل

فون نمبر: +922-35620771/2

aanchalpk.com

aanchalnovel.com

Circulationn14@gmail.com

عمرہ عباد کو سنیتا کے انخواہ کے الزام میں گرفتار کیا ہے اسے
نی الحال چھوڑ دو آگے کے معاملات میں خود سنبھال لوں
گا۔ انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔

”لیکن سر اس پر کشور مہرا کی بیٹی کے انخواہ کا الزام ہے
اور آپ جانتے ہیں نا انہیں.....“ اس نے ذومعنی انداز
میں کہا۔

”میں نے کہا تا میں خود سنبھال لوں گا۔“ اب کی بار ان
کا لہجہ تھوڑا تیز تھا۔

”اوکے سر۔“ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی اور انہیں
ساتھ لے کر ایک طرف بڑھنے لگا۔

”چلیں جان!“ انہوں نے جان کو مخاطب کیا تو وہ ان
تینوں سے مل چکا تھا۔ عمرہ کے فادر اس کے بہت مشکور
تھے مگر احمد کے چہرے کے تاثرات بہت ناگوار تھے۔ وہ

مزید کوئی بات کیے بغیر ڈی آئی جی کے پیچھے چل پڑا وہ
اب تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہے تھے اس نے دیکھا

وہاں بہت اندھیرا تھا۔ صرف ایک چھوٹا سا بلب تھا جو دو
طرفہ بنی کال کوئٹریوں کے وسط میں تھا جان کا دل ڈوبنے

لگا اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے یا پھر پھوٹ
پھوٹ کر روئے۔

”وہ یہاں ہے ان درندہ صفت لوگوں کے درمیان
کیوں؟ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمرہ جیسی پاکیزہ

لڑکی کیوں ان ناپاک لوگوں کے درمیان ہے..... کیوں؟
وہ تو اپنے رب سے بہت محبت کرتی ہے پھر اس نے کیوں

اسے یہاں ان اندھیروں میں لا چھوڑا؟ اس نے آج تک
کوئی گناہ نہیں کیا کوئی غلط کام نہیں پھر کیوں دی جا رہی

ہی اسے یہ سزا..... کیوں؟“ اس کا ذہن بری طرح سے
انتشار کا شکار تھا۔ ڈی آئی جی اور انسپکٹر کے قدم رکے اور

ساتھ ہی جان کو اپنی دھڑکن بھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن محسوس کرنا چاہی تھی مگر

وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔
”نہیں عمرہ! میں آپ کو قبول نہیں کر سکتا ہرگز نہیں۔“

ان میلی نگاہوں کے درمیان میں تصور بھی نہیں کر سکتا آپ

کا۔“ وہ سر جھکائے خود سے ہم کلام تھا۔

”آپ میرے ساتھ آئیے سر۔“ انسپکٹر نے اپنے
مخاطب کیا اور اس نے نہ سمجھنے والی نگاہوں سے ڈی آئی جی
کو دیکھا۔

”جان! وہ اندر کی طرف ہے لیڈیز پورٹن میں۔“ اور
گردن ہلاتا ایک بار پھر انسپکٹر کے پیچھے چل پڑا اندھیرے

راہداری میں چلتے ہوئے انسپکٹر اس سے مخاطب ہوا تھا۔
”بڑی بچی سفارش لائے ہو آپ تو اس لڑکی کے

لیے۔ ورنہ اس کا چھوٹا تو بہت مشکل تھا۔ آپ کو چاہیے
اس نے کشور مہرا کی بیٹی کو انخواہ کر دیا ہے شہر کے چند نامور

تاجروں میں سے ایک ہیں۔“ جان کے قدم یک دم رک
گئے تھے اس جملے پر۔

”کیا ہو اسر! آپ رک کیوں گئے؟“ اس نے پلیٹ کر
پوچھا مگر وہ نا جواب دیئے چل پڑا اور انسپکٹر پھر اس سے

مخاطب ہوا۔
”ویسے رشتا کیا ہے آپ کا اس لڑکی سے جو آپ اس

کے لیے اتنی بڑی سفارش لائے ہیں؟ کچھ تو خاص ہوگا
آپ دونوں کے بیچ؟“ اس کا لہجہ بہت ذومعنی اور انداز

بہت ہی گھٹیا تھا۔ جان کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پکڑ کر ان
سلاخوں میں دے مارے مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ

جاننا تھا کہ اس کی کوئی بھی حرکت عمرہ کو ان سلاخوں
پیچھے ہمیشہ کے لیے مقید کر سکتی ہے۔

”اور کتنی دور ہے؟“ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔
”لیجیے بس پہنچ گئے۔“ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر

تالا کھولتے ہوئے کہا اس نے دیکھا سر سے پیر تک سفید
چادر میں ملبوس دعا میں ہاتھ اٹھائے وہ آنکھ بند کیے بیٹھی

تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے دروازہ کھلنے کی
آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور انسپکٹر سے ہوتی

ہوئی اس کی نگاہیں جان پر آریں۔ اس کی آنکھوں میں
حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔

”آ جاؤ تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔“ انسپکٹر نے حرکت
لہجے میں کہا۔

”آپ ٹھیک تو ہیں نا عمرہ!“ جان نے اس کے باہر
نکلنے ہی پوچھا۔

”میں..... میں ٹھیک ہوں۔“ اس کا لہجہ بہت نرم تھا
عائشہ بہت دیر سے رو رہی تھی۔

”مجھے گھر لے چلیں جان پلیز! مجھے یہاں بہت ڈر
لگ رہا ہے۔“ آنسو اب بھی بہت تیزی سے بہ رہے

تھے۔ انسپکٹر نے کھٹک کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔
”چلیں سر! ڈی آئی جی صاحب ہمارا انتظار کر رہے

ہوں گے۔“ انسپکٹر نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
”چلیں!“ اس نے عمرہ سے پوچھا اور اس نے اشارت

میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل پڑے تھے بھی
پیچھے سے آتا ہوا انسپکٹر عمرہ کے برابر چلنا شروع ہو گیا۔

عمرہ نے خفیف سی نگاہوں سے جان کو دیکھا اور جان نے
سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا وہ چند قدم آگے بڑھا

اور اس طرح لڑکھڑایا جیسے اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرایا
ہو۔ انسپکٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور اس

دوران عمرہ کو اپنی جگہ چھینچ کرنے کا موقع مل گیا وہ پہلے جان
کے بائیں طرف چل رہی تھی اب دائیں طرف آ گئی تھی۔

”میں ٹھیک ہوں۔“ جان نے اپنے بازو سے انسپکٹر کا
ہاتھ بناتے ہوئے کہا اور سر جھکا کر چلنا شروع کر دیا اگر وہ

بیرہنی جانب دیکھتا تو وہ دیکھ پاتا وہ اس کی کتنی مشکور تھی۔

اس کی نگاہیں ایک بار پھر بیک ویو مرر پر پڑی تھیں۔ وہ
اب بھی اپنے بابا کے سینے پر سر رکائے رو رہی تھی اس کے

آنسو بھی اس کے کردار کی طرح شفاف اور چمک دار تھے۔
اس نے دیکھا احمد ایک بار پھر اسے گھور رہا تھا غیرہ کو دیکھنے

پر۔ اس نے اپنی نگاہیں ایک بار پھر وینڈا بکریں سے باہر
روڈ پر جمادی تھیں مگر تھوڑی دیر بعد پھر اس کی نگاہیں بیک

ویو مرر پر آ گئی تھیں۔ عمرہ کی آنکھوں سے بہتا ہوا ایک ایک
آنسو اسے اپنے دل پر گرتا ہوا اور دل پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا

تھا۔ اب کی بار اس نے احمد کی جانب نہیں دیکھا وہ جانتا تھا
احمد اسے دیکھ رہا ہے اور احمد کو وہ اپنی دلی کیفیت بتانے اور

سمجھانے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کار عدیل کے
گھر کے آگے روکی وہ سب کار سے اترے تھے۔ عباد

صاحب نے ایک بار پھر جان کا شکریہ ادا کیا، غیرہ کے
آنسو اب تقم گئے تھے مگر وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی اور عباد

صاحب کے سینے پر سر رکائے کھڑی تھی۔
وہ تینوں اب گھر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عدیل نے

جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلایا تھا بھی ان
دونوں نے ایک ساتھ عباد صاحب کے گھر کی جانب دیکھا

اور اسی وقت غیرہ نے بھی پلیٹ کر مشکور نگاہوں سے جان
کی جانب دیکھا تھا مگر احمد یک دم درمیان میں حائل ہو گیا

تھا اور وہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ عدیل جان کے
گلے لگا اور پھر شکر یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔

جان نے کار اشارت کرتے ہوئے سوچا تھا۔
”انسان کو ہمیشہ زندگی میں مشکل فیصلے کیوں لینے

پڑتے ہیں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا مگر آج سمجھ گیا
ہوں۔ حقیقتاً کوئی بھی فیصلہ مشکل نہیں ہوتا بلکہ ہمیں اپنی

زندگی اور اپنے پیاروں کی خوشیوں میں سے کسی ایک کا
انتخاب کرنا ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ اپنے پیاروں کی خوشیاں

مقدم رکھتے ہیں اپنی زندگی پر اور میں نے بھی آج یہی کیا
ہے۔“ غیرہ عباد۔

پانچ سال بعد وہ اس سر زمین پر قدم رکھ رہا تھا حد نگاہ
تک پھیلے اتر پورٹ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا جب وہ

پانچ سال پہلے یہاں سے گیا تھا تو بہت نا امید اور بے زار
تھا اور آج وہ لوٹ کر آیا ہے تو کس قدر پر امید..... وہ تو

ساری کشتیاں جلا کر گیا تھا پھر کیوں لوٹا! انہی فضاؤں
میں۔ جن میں صرف رنج و غم کی آگ کا دھواں تھا۔ صرف

آنسو صرف آ رہے تھیں۔ اس نے گہرا ایک سانس لیا۔
”اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے کا شان فریدی!

اور نہ ہو سکتا ہے۔“ وہ اس وقت اسلام آباد اتر پورٹ پر کھڑا
تھا۔ پانچ سال قبل پاکستان سے جاتے وقت اس کا ارادہ

واپس لوٹ کر آنے کا نہیں تھا مگر وہ آج بنا ارادے ہی آ گیا

تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے گھر کا ایڈریس سمجھا یا اور گھر کے باہر اترتے ہوئے اس نے ایک نگاہ گھر کے داخلی دروازے پر ڈالی پھر پلٹ کر ٹیکسی ڈرائیور کو کراہیہ ادا کیا اور اپنا سامان اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ دروازے سے دیکھ کر دروازہ کھول دیا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا آج بھی سرخ چھوٹے سائز کی اینٹوں سے بنی راہداری جس کے دونوں طرف گارڈ تھا۔ جس میں انواع و اقسام کے پھول لگے تھے جو مالک کے اعلیٰ ذوق کی ترجمانی کر رہے تھے اور وہ جانتا تھا وہ مالک کون ہے؟ اس کی نانوبی..... سفید ماربلز سے بنی عمارت شام کے سائے میں دلکش منظر پیش کر رہی تھی وہ کارپوریشن سے گزر کر براؤن لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔

”کتی بار کہا ہے میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں کھانے میں نمک تھوڑا ہولے ہاتھ سے ڈالا کرو مگر خیال ہے جو تم میری ایک بھی سن لو۔“ وہ غالباً کسی ملازم کو ڈانٹ رہی تھیں وہ دبے پاؤں ان کے پیچھے آیا اور ملازم کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اس نے ان کی گلہ سزگی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیئے۔

”ارے یہ کون ہے؟“ وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئی تھیں مگر کاشان کے ہاتھ رکھتے ہی انہیں فوراً پتا چل گیا۔ ”کاشان! تم آگے؟“ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس نے ان کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے انہوں نے دھند لانی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ بہت دیر تک وہ اس سے شکوے کرتی رہی اور وہ مسکرا کر سنتا رہا اور جب ان کے شکوے ختم ہوئے تو وہ ان سے مخاطب ہوا۔ ”اچھا بابا سوری! اب آپ کو تنگ نہیں کروں گا کہیں نہیں جاؤں گا مگر اذان کے پاس تو جانے کی اجازت ہے نا مجھے؟“ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔

”لیکن زیادہ دن کے لیے نہیں اور ہاں اب تم آگے ہو تو میں تمہیں کسی نہ کسی کھونٹے سے باندھ ہی دوں گی تاکہ تم یہاں سے جا ہی نہ سکو۔“ انہوں نے اپنے دوپٹے کے

لے ہمیں آپ کے جیسا مومن بندہ بنا پڑے گا جو کہ بہت مشکل کام ہے۔“ کاشان نے مسکراتے ہوئے کہا جب کہ اذان بالکل سنجیدہ تھا۔

”کاشان! مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا مت کرو میرے اعمال کے بارے میں تم جانتے کیا ہو؟ کسی کے موجودہ حالات کو دیکھ کر ہم اس کے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کاشان! جب تک ہم اس کی زندگی کا پورا جائزہ نہ لیں۔“ وہ ایک سانس میں کہتا چلا گیا اور یہ جملے کہتے ہوئے بھی وہ کاشان کو مومنوں کی صف میں نظر آیا تھا جو ہر نیک کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک نہیں کہتے۔

”سر! آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔“ اس کے پی اے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

”کون ہے؟“ اس نے پرسوج لہجے میں پوچھا۔

”عالیاء عبادا“ بی نام سن کر وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔



وہ اپنے کمرے کے سامنے بنے دالان میں کھڑا تھا ٹھنڈی ہوا میں اس کے وجود سے ٹکر رہی تھیں اس کے پی سی بریک اسٹریٹ بوائز کا گانا بلند آواز میں چل رہا تھا۔ اس کی بلیکس تم تھیں۔

”جان! تمہیں پتا ہے یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہوا ہے یہاں تمہاری اور ریٹا کی گفتگو ہوئی اور ادھر عبیرہ اور احمد کا نکاح ہوا گیا۔“ عدیل کے یہ جملے اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں کتنی بار سوچے تھے اور ہر بار کتنی تکلیف محسوس کی تھی اس کا اعزاز خود اسے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ریٹا کی پہنائی ہوئی رنگ کو دیکھا۔

”جان! اگر تم چاہتے ہو کہ میں عبیرہ کو جیل سے باہر نکلاؤں تو تم ریٹا سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ اسے ماما کے لہجے کی سفاکی یاد آئی تھی۔ مشکل فیصلے بھلے ہی کتنے مشکل کیوں نہ ہوں انہیں لینے میں پلک جھپکنے کا نام بھی نہیں لگتا۔

”اگر تم مسلمان ہوتے جان تو میرے نزدیک عبیرہ

کروں گا۔“ کاشان نے بہت نارمل انداز میں کہا۔ ”مجھے پتا ہے کاشان! اذان نے کافی کاسپ لینتے ہوئے کہا۔

”مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے بہت سکون ملتا ہے اذان اور جو عروج میں نے آپ کے ساتھ کام کر کے پایا وہ کبھی اور کے ساتھ کام کر کے نہیں پایا۔ میں آپ سے بہت دور ہو کر بھی کبھی آپ کی باتوں کو نہیں بھولا ہر مشکل وقت میں نے وہی کیا جو میں نے ہمیشہ آپ کو کرتے ہوئے پایا۔“ کاشان بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔

”عروج اور زوال سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو کون جانتا ہے کون تھا اذان؟ کیا بھی اس کی حقیقت؟ اور اب کون ہے وہ؟“ اس دنیا میں لوگ اسی کی مانتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے جو وہ دے اسے خوشی سے قبول کر لو پھر چاہے اس میں بظاہر آپ کی بار ہو۔“ اذان نے ہمیشہ کی طرح پھر اسے الجھایا وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتا تھا جس سے کاشان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اذان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا تغیر آیا ہے لیکن کیا؟ یہ وہ آج تک نہیں سمجھ پایا تھا۔

”آپ خود کو اتنا کم تر کیوں سمجھتے ہیں اذان! میری نگاہ سے دیکھیں آپ ایک مکمل انسان ہیں ایک مکمل مومن مسلمان۔ جسے بہت سے لوگ آئیڈیلز کرتے ہیں مجھ سمیت۔“ کاشان نے بہت اطمینان سے کہا۔

”تم جانتے ہو میں خود کو.....“ کاشان نے اس کی بات کاٹ دی۔

”مجھے پتا ہے آپ خود کو دوسروں کو آئیڈیل بننے کے لائق نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کے مطابق صرف نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک مسلمان کا آئیڈیل ہونے چاہئیں۔“ کاشان نے دیکھا تھا اذان کے لب لباب سے تھے وہ درود شریف پڑھ رہا تھا۔

”کیا میں غلط کہتا ہوں؟“ اب اذان اس سے مخاطب تھا۔

”نہیں! آپ غلط نہیں مگر انہیں آئیڈیلز کرنے کے

آنچل سے نسو پونچھے ہوئے کہا۔

”ہم دونوں آج ڈنر باہر کریں گے نانوبی۔“ اس نے ان کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ ”تم نے سنائیں نے کیا کہا؟“ انہوں نے ایک بار پھر اسے متوجہ کیا۔

”نانوبی! اگر آپ مجھے کسی کھونٹے سے باندھنے کی کوشش کریں گی تو میں اسی دنیا میں تم ہو جاؤں گا۔ جس سے میں واپس آیا ہوں فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح پانچ سال قبل میرے ہاتھ میں تھا۔“ اس کا لہجہ سلاگا ہوا تھا وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھیں وہ باغی نہیں تھا مگر خفا تھا۔



”خوش آمدید مسٹر کاشان فریدی!“ اذان سہیت اس کے تمام اشفاق نے کاشان کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔

”کیسے ہو؟“ وہ دونوں اب اذان کے ففس میں موجود تھے۔

”بالکل ٹھیک ہوں! آپ سنائیں کیا حال ہیں؟“ کاشان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔

”یہاں بھی الحمد للہ ٹھیک ہی ہیں۔ تم بتاؤ پاکستان سے دور زندگی کیسی گزری؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیا تھا؟“ اذان نے انٹر کام کار سیورٹھا کر کافی اور بسکٹ کا آرڈر دیا۔

”تجربہ تو بہت اچھا تھا لیکن دل کہیں نہیں لگا کیونکہ وہ تو یہیں رہ گیا تھا آپ کے پاس۔“ کاشان مسکرایا اور اذان اس کے جملے پر ہنس رہا دیا۔

”چلو اب تھوڑی بہت سنجیدہ گفتگو ہو جائے میرے پراجیکٹ کے بارے میں کیا سوچا کرو گے اس پر کام میرے ساتھ؟“ اذان اب بالکل سنجیدہ تھا۔

”آپ جانتے ہیں اذان! میں صرف آپ کے پراجیکٹ کی وجہ سے پاکستان آیا ہوں ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تو پھر میں آپ کے پراجیکٹ پر کیسے کام نہیں

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ

یہ ٹھکانہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

مجموعہ خاص کیوں ہے :-

- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ایچ
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریٹخ
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہریم کوالٹی مارل کوالٹی، کمپریڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از منظر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریٹخ
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library Far Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



مجھ کو بھی محمدؐ کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو نکلتی تھیں اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبیؐ حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا دیدار محمدؐ کی حسرت تو رہے باقی جزاں کے ہر اک حسرت اس دل سے مٹا جانا اپنی نعت مکمل کر کے وہ آج پر ہی اپنی ہی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ آج 12 ربیع الاول کا دن تھا اور ہر سال کی طرح اس نے آج بھی محفل میلاد میں حصہ لیا تھا۔ اس کے نعت پڑھتے ہی پورا ماحول سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا تھا بہت بڑے پیمانے پر ہونے والے اس میلاد میں ملک بھر سے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آج پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ نیچا گیا اور بھی کسی نے اس کی انگلی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ وہ ایک سات آٹھ سال کا بچہ تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب اس کی طرف بڑھا رہا تھا اس نے دیکھا وہ بہت گول مٹول سا بچہ تھا۔ وائٹ شلوار بلیک قمیض پشاور کی چپل سر پر بلیک ٹوپی جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مونی لگے ہوئے تھے اسے نے اختیار اس بچے پر پانا یا تھا۔ وہ بچہ شرمایا گیا۔

”ہوں..... آپ تو بہت سوٹ ہیں نام کیا ہے آپ کا؟“ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بچے کی گردن کے گرد مائل کیے تھے بہت پیار سے پوچھتے ہوئے۔

”میرا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے اور آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں اور بہت سوٹ بھی ہیں۔“ وہ بچہ بہت معصوم انداز میں بولا تھا۔

”بہت بہت شکریہ میری نعت پسند کرنے کے لیے ویسے آپ کا نام صرف عبداللہ ہے یا عبدالرحمن بھی ہے؟“ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس بچے سے بات کرنا۔

”یہ پورا نام میرا ہی ہے میری ماما کہتی ہیں کہ مجھے عبداللہ نام بہت پسند تھا اور تمہارے بابا کو عبدالرحمن اس لیے ہم نے تمہارے دونوں ہی نام رکھ دیئے کیونکہ اللہ

کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں تھا مگر یہ تمہاری سب سے بڑی بد قسمتی ہے کہ تم ایک مان مسلم ہو اور غیرہ ایک پکی مسلمان۔“ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔

”کیا مذہب ایک مسلمان کی زندگی میں اتنا اہم ہوتا ہے کہ ہر سچا جذبہ اس کے سامنے بے معنی ہو جاتا ہے؟“ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اس نے گردن جھکاتے ہوئے ہاتھ گھاس پر رکھ دیئے تھے۔

”کیا میرے لیے میرا مذہب اتنا اہم ہے؟“ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اس کے جواب پر اسے حیرت ہوئی تھی اس کا جواب منفی تھا۔

”ہاں غیرہ! آپ میری زندگی میں اتنی اہم ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کریں تو میں مسلمان ہو جاتا غیرہ! آپ کے لیے۔ مگر اب اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب آپ میری زندگی کا حصہ بھی نہیں بن سکتیں۔“ اس کی آنکھ سے آنسو گرا اور ہری گھاس پر شبنم کے قطرے میں مل گیا۔ منفی سوچیں آج اس پر اس حد تک حاوی تھیں کہ وہ غیرہ کا پڑھایا ہوا ہر سبق بھول گیا تھا۔

”اسلام وہ مذہب نہیں جو مشکلوں اور الجھنوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اختیار کیا جائے یا کسی زور زبردستی سے یا پھر کسی انسان کے لیے اختیار کیا جائے۔ یہ ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے والے انسان کا مذہب ہے جسے انسان صرف اللہ کی محبت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے۔“ یہ جملے فضاؤں میں کہیں گردش کر رہے تھے مگر وہ آج سن نہیں پایا تھا اگر سن لیتا تو جان جاتا کہ اس نے مجازی محبت کو حقیقی محبت پر فوقیت دی ہے اور اس کی یہ محبت خود اس کے اور غیرہ کے لیے کتنا بڑا امتحان ہو سکتی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔



اے عشقِ نبیؐ میرے دل میں بھی سا جانا

تعالیٰ کو تو یہ دونوں نام بہت پسند ہیں۔“ اس کی باتیں بہت دلچسپ تھیں وہ محظوظ ہونے لگا تھا۔

”ویسے آپ کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے؟“ اس کے لہجے میں اب تھوڑی شرارت تھی۔

”نہیں لیکن کیوں انکل؟“ اس بچے نے بہت معصومیت سے پوچھا۔

”ویری سپل! آپ کے والدین کو دو نام پسند ہیں ایک آپ کا رکھ لیتے اور دوسرا آپ کے بھائی کا۔“ اس نے بہت مزے سے کہا اور اس بچے نے شرم کے سبب دانتوں میں انگلی دبائی تھی۔

”آپ ہمارے ساتھ آسکریم کھائیں گے؟“ اس نے عبداللہ کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

”لیکن ممانع کرتی ہیں نا ٹھنڈ لگ جائے گی بخار ہو جائے گا پھر ممدار میں گی بابا پریشان ہوں گے۔“ عبداللہ نے آس کریم کھانے کی خواہش کے باوجود نہ کھانے کی ہزار ہا وجوہات بیان کیں۔

”کوئی بات نہیں ابھی تو ماما یہاں نہیں ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا۔ ہم تھوڑی سی کھائیں گے۔“ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلنا شروع کر دیا۔

”لیکن ماما با دونوں آئے ہوئے ہیں۔“ عبداللہ اب بھی اپنی مجبوری ظاہر کر رہا تھا۔

”کوئی بات نہیں میں ماما کو کہہ دوں گا کہ میں نے خود کھلائی ہے اب خوش۔“ عبداللہ اب مطمئن ہو گیا تھا آس کریم لے کر اس نے عبداللہ کو کار کے بونٹ پر بٹھایا اور آس کریم کا کپ عبداللہ کو پکڑا دیا۔

”انکل! آپ کو پتا ہے میری ماما آپ کو جانتی ہیں۔“ عبداللہ نے آس کریم کھاتے ہوئے اچانک کہا اس نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا کیونکہ اس کا پریشانیسا تھا بہت سے لوگ اسے جانتے تھے۔

”انہوں نے مجھے آپ کا نام بتایا اور وہ آپ کو نعمت پڑھتے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔“ وہ اب بھی اطمینان سے آس کریم کھا رہا تھا۔ ”آپ کا نام جان ہے نا؟“

عبداللہ نے بہت بے فکری سے کہا اور اس کا ہاتھ یک دم رک گیا تقریباً دس سوا دس سال بعد کسی نے اسے اس نام سے پکارا تھا اور وہ بھی ایک بچے نے اور ایک ایسے شہر میں جو اس کا آبائی شہر نہیں تھا۔

”کک..... کیا کہا آپ نے؟“ وہ بری طرح ہکھلایا۔

”یہی کتا آپ کا نام جان ہے اور میری ماما آپ کو جانتی ہیں۔“ عبداللہ آس کریم ختم کر چکا تھا۔

”آپ کی ماما مجھے کیسے جانتی ہیں؟“ اس کی تشویش میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی۔

”وہ تو انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔“ عبداللہ نے حد درجہ بے بسی سے کہا۔

”آ..... آ..... آپ کی ماما کا نام کیا ہے؟“ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے خیال میں ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا۔ اسی کا چہرہ جسے وہ دس سال میں ایک بار بھی نہیں بھولا تھا۔

عجزہ عباد کا چہرہ۔ عبداللہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کے پیچھے کی طرف دیکھا۔

”ماما! وہ کہتا ہوا کار کے بونٹ سے اتر اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کے دیکھا اور اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔



اس نے ایک نگاہ اس دس منزلہ عمارت کو دیکھا وہ آج یہاں دوسری بار آئی تھی۔

”زندگی بھی کتنی عجیب ہے ہر لمحہ نئی پھر بھی وہی۔ کتنے رنگ سمیٹے ہوئے ہیں اس نے اپنے اندر ہر موڑ ایک نیا چہرہ ایک نئی پہچان۔ کیا ہے میری اصل پہچان؟ کون ہوں میں؟

کن حالات میں میری پہچان مجھ سے گھوٹی اور کیوں؟“ بے ترتیب سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔

وہ سیڑھیاں چڑھ کر دروازے سے اندر داخل ہوئی اور کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے پوچھا۔

”کیا میں اذان سے مل سکتی ہوں؟“

”سوری میم! آج سر چھٹی پر ہیں۔“ اسے ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔

”اوکے۔“ وہ پلٹ کر احرام کو دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔

”ہو سکتا ہے وہ باہر میرا انتظار کر رہا ہو۔ میری وجہ سے وہ بھی کتنا پریشان رہنے لگا ہے۔“ اس کا ذہن سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔

”مس عالیین! اذان کا میل آف ہے آپ لینڈ لائن ڈائل کریں کہ وہ آج کیوں نہیں آیا۔“ اس آواز نے اس کے ذہن میں سوچوں کے سلسلے کو روک دیا تھا۔ اسے وہم نہیں ہوا تھا یہ اسی انسان کی آواز تھی جسے وہ لاکھوں میں تو کیا کروڑوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا وہ بھی پلٹتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہیں کچھ منظر کچھا وازیں ابھرنے لگی تھیں۔

”طوبی آپ میری زندگی میں دھڑکن کی مانند ہیں لیکن میری نانوںی میری زندگی میں سانسوں کی مانند ہیں۔ میری زندگی کا تصور آپ دونوں کے بنا ہی ناممکن ہے مگر جب مجھے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملا تو میں آپس ہی چنوں گا اور میں انہیں ہی چننا ہے۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف آپ سے شادی نہیں کر سکتا آپ مجھے بھول جائیں۔“

”کاشان فریدی!“ اس کے منہ سے غیر یقینی انداز میں نکلا۔ اس دن کے بعد طوبی نے کبھی بھی اس کے زور و بردا نے کی دعا میں مانگی تھیں مگر آج وہ اس کے روبرو آئی گیا تھا۔ وہ اسے اپنے قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی تھی احرام اندر داخل ہوا۔ طوبی نے اس کا ہاتھ تھاما اور جلدی سے اسے وہاں سے چلنے کو کہا۔ کاشان دیکھ رہا تھا طوبی کی زندگی میں آنے والا پہلا لمحہ وہ لڑکا کون تھا وہ یہ تو نہیں جانتا تھا مگر ان کا رشتا کس نوعیت کا ہو سکتا ہے یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا۔



”احمد بیٹا! رات کے تین بج رہے ہیں اب تک ہوئے نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟“ اس کے کمرے کی

لائٹ آن دیکھ کر وہ اس کے کمرے میں آگئی تھیں۔ وہ بے سدھ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا ان کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔

”نیند نہیں آ رہی تھی اماں!“ اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔

”ادھر دیکھو میری طرف۔“ انہوں نے اس کے برابر بیٹھے ہوئے کہا اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔

”کیوں دے رہے ہو خود کو یہ سزا اور کب تک دو گے۔“ ان کے لہجے میں درد تھا۔

”کوئی سزا نہیں دے رہا ہوں میں خود کو اماں.....“ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے وہ گویا ہوئیں۔

”یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے۔ اپنی حالت دیکھو تم بھول کیوں نہیں جاتے اسے۔“ وہ تڑپ کر بولی تو وہ چند لمحے خاموش رہا پھر دھیمے لہجے میں مخاطب ہوا۔

”کیا کوئی انسان سانس لینا بھول سکتا ہے؟“ وہ گنگ رہ گئی تھیں۔ اس نے اب ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ”نہیں نا!“ اس نے تصدیق بھی کر دی تھی پھر اٹھ کر بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر رکھی نیند کی گولی کھائی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔

”شب بخیر اماں!“ وہ بنا جواب دیئے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔

”آ خر کب ختم ہوگی میرے بیٹے کی سزا میرے مالک! کب تک وہ ایک ایسا نرل زندگی جیے گا۔“ ان کی پلکیں نم ہونے لگی تھیں۔

”کون کہہ سکتا ہے کہ دن کی روشنیوں میں لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹنے والا انسان رات کے اندھروں میں اس طرح سسکتا ہے۔“ وہ مل کھاتی راہداری کے اختتام پر سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔

”مجھے کہتی ہیں کہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور خود اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے ماربلز پر بیٹھی ہیں۔“ احمد کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔

”پہلے اٹھیے یہاں سے.....“ اس نے اپنا ہاتھ ان کی

طرف بڑھایا اور انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ "میں نے کہا ناں آپ سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ خواجواہ پریشان ہو رہی ہیں۔" ان کا ہاتھ تھا سو وہ ان کے کمرے کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔

"تمہیں کیا پتا کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کا بیٹا بظاہر بہت نارمل ہونے کے باوجود بھی ایک ایسا نارمل زندگی گزار رہا ہو جو نیند کی گولی کھائے بغیر نہ سوتا ہو۔" وہ دونوں اب کمرے تک پہنچ گئے تھے انہیں بیڈ پر لٹا کر اس نے کبل ڈال دیا۔

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ہاں تو ابھی میری عمر ہی کیا ہے صرف سولہ سال ہے" اس نے لہرا کر کہا۔ "عالی؟" اماں نے کرخت لہجے میں کہا اور وہ اندر کی طرف دوڑی۔

"اف خدایا! اس لڑکی نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر مجال ہے جو بچپنا گیا ہو اس کا۔" وہ بڑبڑاتی ہوئی تخت پر ہی آ بیٹھیں اور سبزیاں کٹوانے لگیں۔

"اماں ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی فرسٹ ایئر میں تو ایڈمیشن ہوا ہے اس کا۔ آپ بھی اس کے پیچھے ہی پڑنی رہتی ہیں۔" عمیرہ نے خفگی سے کہا۔

"یہ تمہارا ہی لاڈ پیار ہے جس نے اسے اتنا بگاڑا ہے تم نے مجھے کبھی اتنا نہیں ستایا جتنا اس لڑکی نے ستا مارا ہے۔" انہوں نے بار بار غصے سے کہا۔

"اماں آپ بھی نابالغ۔" عمیرہ ان کے خفا ہونے پر ہنسی۔

"شب بخیر اماں!" اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان کے کمرے سے نکل کر وہ بیڈروم پر ہی آ بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اس کی اماں تھیں۔ ایک ٹریکولار رکھا کر بھی اس کی آنکھوں میں نیند کہیں نہیں تھی اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے مگر وہ ڈپریشن کیوں تھا سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تھا یہاں تک کہ اس کی اماں بھی نہیں۔

"ویسے عمیرہ! وہ لڑکا کون ہے جس نے تمہیں پرسوں رات جیل سے چھڑوایا تھا؟" انہوں نے تفتیشی انداز میں کہا۔ "تمہارے بابا جان بتا رہے تھے کہ وہ تمہیں جانتا ہے جب کہ وہ عدیل کا دوست ہے۔" ان کا لہجہ اب بھی وہی تھا۔

"وہ جان ہے اماں! سنیتا کی طرح اسلام کو جاننے کی جستجو رکھتا ہے اور میں دین اسلام سے متعلق اس کی غلط فہمیاں دور کرتی ہوں۔" عمیرہ نے بہت مطمئن لہجے میں کہا۔

"آپا نکاح کے ڈریس میں کتنی پیاری لگ رہی تھیں میں کیا بتاؤں۔" عالی نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت صحن میں تخت پر دوپٹے میں بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔

"احمد بھائی بھی بہت پینڈم لگ رہے تھے آپ دونوں کی جوڑی خوب رہے گی۔" اس کا لہجہ بہت ہنس مٹھا تھا۔

"اچھا اب بس کرو کل رات سے ہزار ہا بار یہ جملے کہہ چکی ہو۔" عمیرہ نے دھیسے سے مسکراتے ہوئے اسے ڈانٹا۔

"کیوں دوبارہ جیل جانے کا ارادہ ہے کیا جو اب دوسرے غیر مسلم کو مسلمان کرنے چل دی ہو۔ ایک کو مسلمان کر کے تم نے ہمیں کم ذلیل کرایا ہے لیکن اس سب کی تم اکیلی ذمہ دار کہاں ہو یہ سب تو تمہارے اس پروفیسر خالد عباسی کا کیا دھرا ہے جس نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تمہیں سکھائی۔ اسی نے یہ خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں۔ خود کا تو کچھ نہیں گیا میری بیٹی کا

"عالی ادھر آؤ چلو کمرے کی صفائی کرو۔" اندر سے اماں نے آواز لگائی۔

"آپا اماں آپ سے بھی اتنا ہی کام کرواتی تھیں جب آپ میرے جتنی تھیں۔" عالی نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔

"آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت چھوٹی ہیں ابھی؟" عمیرہ

نام بدنام کر دیا۔ دیکھا تھا ناں کل محلے سے کوئی بھی نہیں آیا تمہارے نکاح میں وہ تو بھلا ہوا احمد کا اپنے ماں باپ کی مرضی نہ ہونے کے باوجود اس نے یہ نکاح کیا اور نہ اگر وہ انکار کر دیتا تو کون کرتا تم سے شادی؟" انہوں نے بہت چپختے ہوئے لہجے میں کہا اور عمیرہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔

"آپ کو لگتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے راہ ہدایت دکھائی تو غلط کیا؟" حیرت اور غم کے سبب اس کے منہ سے لفظ بہت مشکل سا ادا ہوئے تھے۔

"ہاں غلط کیا تم نے تم یہ کیسے بھول سکتی ہو کہ تم ایک لڑکی ہو۔" ان کا لہجہ اب بھی ٹیکھا تھا۔

"آپ کو لگتا ہے کہ اشاعت اسلام غلط ہے؟" وہ اب تسدیق چاہ رہی تھی۔

"نہیں میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ تم اسلام پر عمل پیرا ہو اس کی اشاعت کرنی ہو یہ تو ہم دونوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس میں اس حد تک اٹو الو ہو جانا کہ خود کو نقصان ہو یہ غلط ہے۔" انہوں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو یک دم گھر کا دروازہ بہت زور سے بجا اور وہ دونوں ہی ڈر گئی تھیں۔ عمیرہ کی اماں نے اٹھ کر دروازہ کھولا دروازے پر عباد صاحب تھے ان کے سر سے خون بہ رہا تھا۔

"ہائے اللہ..... یہ کیا ہو گیا آپ..... کس نے کر دی آپ کی یہ حالت۔" انہوں نے جلدی سے عباد صاحب کا بازو تھاما اور دروازہ بند کرتے ہوئے عمیرہ اور عالی کو آواز لگائی۔ دونوں ہی دوڑی آئی تھیں ان کی یہ حالت دیکھ کر ان دونوں کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔

"عالی! تم بابا کو پانی دو میں اسپرٹ لاتی ہوں۔" اس نے اندر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ عالی نے پانی پلایا اسے میں عمیرہ اسپرٹ اور روٹی لے آئی تھی۔ عباد صاحب دھیسے دھیسے کچھ بول رہے تھے اس کے قریب پہنچتے ہی عمیرہ کی اماں نے پوری قوت سے اسے پھینک مارا اسے کچھ کچھ نہیں آیا۔

"دیکھو.....! آج تیری وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔" اماں نے شدید غصے سے کہا۔ "آج تک جن آوارہ لڑکوں کو تیرے بابا کے سامنے سرائٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی انہوں نے پتھر مارے انہیں یہ کہہ کر کہ ہم تو آوارہ تھے مگر کبھی جیل نہیں گئے تمہاری بیٹی تو پاکباز تھی وہ کیسے جیل چلی گئی۔" عمیرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے پڑے۔

"عمیرہ کو کچھ نہ کہیں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔" اس کے بابا نے کمزور لہجے میں کہا۔ عمیرہ آنسو صاف کرتی ان کے برابر آ بیٹھی تھی اور اسپرٹ سے ان کا زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈب رہی تھیں اماں کا مارا ہوا پتھر اس کے چہرے پر پانچوں انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔

سورج دھیسے دھیسے غروب کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گارڈن میں بیٹھا پیر کی تیاری کر رہا تھا دو تین کتابیں اس کے سامنے سینٹرل ٹیبل پر پڑی تھیں۔ ساتھ ہی کانی کا خالی کپ بھی رکھا تھا۔ ٹیبل کے گرو چار چیئرز تھیں جن میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا دوسری پر اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے اور باقی دو چیئرز خالی تھیں۔

"تمہیں پتا ہے جان! مسٹر مہرا بہت ناراض ہوئے جب انہیں پتا چلا کہ عمیرہ کی ضمانت ہم نے کروائی ہے۔" اس کی ممانے ان خالی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جان نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور سیدھا ہو بیٹھا۔

"تمہاری معافی پر بھی اسی لیے نہیں آئے وہ۔" انہوں نے افسوس سے کہا۔

"مومہ! مجھے ان کا الزام بالکل بے بنیاد لگ رہا ہے۔ بھلا عمیرہ کو کیا ضرورت ہے سنیتا کو اغوا کرانے کی اور سنیتا بھی کوئی بچی تو نہیں ہے جو اسے اغوا کرنا آسان ہے۔" جان نے عمیرہ کی وکالت کی۔

"مسٹر مہرا! بتا رہے تھے کہ اس نے مسلسل سنیتا کو بہکایا اور اپنے دین پر لے آئی پھر نہ جانے اسے کہاں غائب کر دیا تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ سنیتا نے کسی مسلمان

لڑکے سے شادی بھی کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر اسے عیبرہ کی حقیقت بتانی چاہی تھی۔

”مجھے یقین نہیں ہے۔“ جان نے بہت اطمینان سے کہا۔

”لیکن مجھے کیا کرنا ہے اب تمہاری مثال لے لو یہ اسی کا بہکاوا ہے کہ میرا بیٹا جو میرے سامنے آئی اور سچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا اب میرے فیصلوں کو روک کر لگا ہے۔“ ان کے لہجے میں کڑواہٹ ابھرتی تھی۔

”یہ آپ کی سوچ ہے ماما! عیبرہ کسی کو نہیں بہکتی وہ صرف سچ بولتی ہے۔ انسان کی اصلیت اس پر کھول کر رکھ دیتی ہے اس کے دلائل عقلی ہوتے ہیں وہ ہماری طرح ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتی۔ وہ آپ کی یا فادر جوزف کی طرح یہ نہیں کہتی کہ صرف اپنے دین کا علم حاصل کرو اگر کسی دوسرے دین کو جانو گے تو اپنے دین سے باہر ہو جاؤ گے۔ میں نے بچپن سے آپ کو اور فادر جوزف کو اسلام کے خلاف زہرا لگتے دیکھا مسلمانوں کے نبی اور ان کی کتاب کو غلط کہتے سنا حالانکہ عیبرہ نے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا اور نہ مبرا بتاؤ کیا یہ اس کا حسن اخلاق ہے جو لوگوں کو اس کے دین کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سینا کو بھی اس کے رویے نے ہی اپنے طرف کھینچا ہوگا جیسے مجھے۔ وہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے کا نہیں کہتی وہ صرف حق کی راہ دکھاتی ہے جو چاہے اس پر چلے اور جو نہ چاہے وہ نہ چلے۔“ جان ایک تسلسل سے کہتا چلا گیا اور اس کی ماما اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھیں۔

”مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جان کہ اس کی محبت میں تم اسلام کے حمایتی ہو رہے ہو؟“ انہوں نے طنز یہ لہجے میں کہا۔

”اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے موم کہ آپ ضرورت سے زیادہ مجھ پر شک کرنے لگی ہیں؟“ جان نے بھی ان کے انداز میں کہا۔

”کیونکہ تم نے خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنا کردار میری نظروں میں مشکوک کر لیا ہے۔“ انہوں نے کہا۔

نے چڑ کر کہا۔

”نہیں ماما! میری حرکتوں نے نہیں بلکہ اپنے دین کے لیے آپ کے حد سے زیادہ پوزیٹو ہونے نے آپ کو مجھ پر شک کرنے پر مجبور کیا ہے۔“ جان جھنجھلا گیا اس بے معنی بحث سے۔

”اگر کوئی اپنے دین کے بارے میں پوزیٹو ہے تو اس میں کیا برائی ہے کیا عیبرہ نہیں ہے؟“ انہوں نے ایک بار پھر طنز کیا۔ جان نے اب کی بار ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ نے انہیں اذاس کر دیا تھا۔

”کہاں جا رہے ہو؟“ انہوں نے تڑپ کر پوچھا۔

”مام مجھے لگتا ہے کہ عیبرہ کا ذکر کرنا مجھ سے زیادہ آپ کو پسند ہے۔“ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔

”اے لینی کوئی بات نہیں مجھے جو لڑکی پسند نہیں بھلا اس کا ذکر کرنا مجھے کیوں کر پسند ہوگا۔“ انہوں نے بہت ناگواریت سے کہا۔


”خدا کے واسطے ماما! عیبرہ کوئی دین نہیں ہے ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ آپ کی اس کے دین سے نفرت آپ کو اس سے نفرت پر اکسار ہی ہے۔“ جان نے بہت بلند آواز میں کہا۔

”تم بات کو خواہ مخواہ طول دے رہے ہو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم مجھے پوزیٹو کہہ رہے ہو تو پھر عیبرہ کو کیا کہو گے؟“ انہوں نے اب بھی اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہوئے کہا۔

”وہ پوزیٹو نہیں ہے ماما! کیونکہ پوزیٹو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے ہوا جاتا ہے جن کے کھو جانے کا ڈر ہو اور عیبرہ کو ایسا کوئی ڈر نہیں کیونکہ وہ جانتی ہے جو اس کے پاس ہے وہ مکمل ہے۔“ جان نے بہت مضبوط لہجے میں کہا اور پھر گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

”تم میں اسلام کے جڑوے کہاں سے آگئے ہیں جان! تمہاری اس بیماری کی وجہ عیبرہ ہے یا پھر.....“ ان کے محل میں ایک چہرہ ابھرا تھا۔

”نہیں ہرگز نہیں..... اتنا بڑا انتقام یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔“ وہ خفیف سے لہجے میں کہتی چلی گئی تھیں۔



آج اس کا پہلا بیچر تھا اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا بھی رہا تھا۔ اگلا بیچر اگلے ہفتے کی کسی تاریخ کا تھا جب وہ نہا کر نکلا تو اس کا سیل بج رہا تھا۔ اسٹینڈ کرنے پر دوسری طرف ماما تھیں۔

”جان! میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں اپنی فیکٹری کے لیے مال کی بنگلہ کرانی ہے۔ کرسس آنے والی ہے اور اس کے لیے میں نے انٹرنیٹ ڈیکوریٹر سے بات کی ہے۔ ہمیشہ تو میں ڈیکوریشن اپنی پسند سے کرتی ہوں مگر اس دفعہ تم دیکھ لینا اوکے۔“ انہوں نے بہت مفصلی طور پر اسے بتایا۔

”اوکے۔“ جان نے ایک لفظی جواب دے کر کال بس کنیکٹ کر دی تھی۔

آج تین دن ہونچکے تھے ڈیکوریشن کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ آج اس کا کمرہ ڈیکوریٹ ہونا تھا۔ وہ ڈیکوریٹر کو ہدایت دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔

بل کھانی راہ داری میں مڑتے ہوئے اس کی نگاہ غیر محسوس طور پر راہ داری کے اختتام پر بیٹے کمرے پر جا پڑی تھی۔ یہ اس کے بابا کا اسٹڈی روم تھا۔ اس نے کبھی بھی اس روم کو کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا اور آج بھی وہ روم بند ہی تھا۔ اس نے ایک در کو روک کر پوچھا۔

”آپ نے یہ روم کیوں نہیں کھولا اس کی ڈیکوریشن چنانچہ نہیں کرنی؟“ اس کا انداز نفیاتی تھا۔

”نہیں سر کیونکہ میم نے ہمیں ہمیشہ اس کمرے کو نہ کھولنے کی ہدایت کی ہے۔“ وہ در کو اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا جب کہ جان اس کمرے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

لکڑی کے دروازے پر سفید پینٹ کیا ہوا تھا اور کنڈی لگا کر بڑا سا تالا ڈالا گیا تھا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بہت حسرت سے دروازے پر ہاتھ رکھا اس نے ہمیشہ

اپنے بابا کے قصے سے تھے۔ کبھی ان کی تصویر بھی نہ دیکھی تھی دل بوجھل ہونے لگا تھا ایک عجیب سی کشش تھی اس نے اپنا سر دروازے کے ساتھ ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں کچھ لمحات بعد ہی اسے محسوس ہوا تھا جیسے دروازے کے دوسری طرف کوئی موجود ہو کوئی کچھ بول رہا ہو وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور حیرت سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔

”مجھو ہم تو نہیں ہوا۔“ اس نے دل میں سوچا اور ایک بار پھر دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا مگر اب کی بار پھر اسے وہی سرگوشی نما آواز سنائی دی وہ پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آواز کو مدھم مدھم مگر سنائی دے رہی تھی۔

”اتنے سالوں سے یہ کمرہ بند ہے پھر یہ آواز کس کی ہے؟“ وہ سوچتا رہا۔ ”کیا اندر کوئی ہے؟“ اس نے دروازے کو دھیسے سے بجاتے ہوئے پوچھا مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا اندر سے۔

”جان بابا! ملازمہ نے اسے پکارا اور وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔“ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیگم صاحبہ نے سختی سے اس کمرے سے دور رہنے کو کہا ہے۔“ اس نے جان کو مطلع کیا۔

”کیوں؟ کس لیے کیا یہ کمرہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے؟“ اس نے ضعیف العمر ملازمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔“ ملازمہ سر جھکا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ جان مزید کچھ کہتا موبائل بجا اس نے نمبر دیکھا عدیل کا تھا۔

”ہیلو! سب خیریت تو ہے نا؟“ کال ریسیو کرتے ہی اس نے پوچھا تھا کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں عدیل کی کالز سے اسے کچھ خاص خوشی کی خبر نہیں ملی تھی ہر روز عیبرہ اور اس کی فیملی کے ساتھ محلے میں ہونے والی بدسلوکی کے بارے میں بتاتا تھا۔

”جان! بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے عیبرہ دو تین دن سے لاپتہ ہے۔“ عدیل کا یہ جملہ اس کے سر پر ہتھوڑنے کی طرح لگا تھا۔

”یہ... تم کیا کہہ رہے عدیل؟“ شاک کے سبب اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔

”پرسوں پیپر دینے یونیورسٹی گئی تھی اور لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ پولیس اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کر رہی ان کا کہنا ہے کہ اس پر اغوا کا الزام ہے اور شاید اسی سے بچنے کے لیے وہ اپنے طور پر کہیں غائب ہو گئی ہے۔“

عدیل کہہ رہا تھا اور جان شدید غصے میں آ گیا تھا۔ ”اجہڑ نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں اس معاملے میں شامل کروں اور اب بھی میں نے اسے بغیر بتائے تمہیں انفارم کیا ہے۔“ عدیل نے حد درجہ مجبور لہجے میں کہا اور جان ہونٹ بچھینچ کر رہ گیا۔

”عباد انکل کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تم ڈی آئی جی سے بات کرو وہ غیرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کریں۔“ عدیل نے سنجی لہجے میں کہا۔

”اوکے۔“ جان نے اتنا کہہ کر کال ڈس کنیکٹ کر دی۔

”کہاں جا سکتی ہے غیرہ...؟ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو بدنامی کے ڈر سے چھپ جائیں تو پھر آخروہ گئی کہاں؟“ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا اور یک دم ہی ایک خیال اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔

”ادمانی گاڑ۔“ اس کے منہ سے خوف کے سبب لکلا تھا۔



کمرے کے وسط میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا سر جھکانے بہت سی الجھنوں کا شکار بھی بھاری قدموں کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو کمرے کے داخلی دروازے سے ایک دراز قد آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا ذیل ڈول اچھا تھا اور سر کے بال درمیان سے غائب تھے وہ مسٹر مہرا تھے انہیں دیکھتے ہی جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔

”ہیلو جان!“ انہوں نے ہاتھ ملا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ”آج ہمارے گھر کیسے آنا ہوا؟“ مسٹر مہرا نے طنز کا

تیر چلایا۔

”آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں؟“ جان نے نکل سے کہا۔

”نہیں میں تو نہیں جانتا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟“ انہوں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔

”غیرہ کہاں ہے؟“ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا۔

”میرے مطابق تو اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا مگر آپ نے اس کی ضمانت کرا دی تھی تو یقیناً اب وہ اپنے گھر پر ہوگی۔“ انہوں نے بھی اسی اطمینان سے کہا۔

”وہ ہوئی اپنے گھر پر اگر آپ نے اسے اغوا نہ کرایا ہوتا۔“ جان نے بہت سنجیدگی سے کہا۔

”تم میرے گھر میری چھت کے نیچے بیٹھ کر مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔“ انہوں نے گھورتے ہوئے کہا۔

”میں الزام نہیں لگا رہا سچ کہہ رہا ہوں۔“ جان نے بنا ڈرے کہا۔ مسٹر مہرا چند ثانیے اسے دیکھتے رہے پھر مخاطب ہوئے۔

”چلو مان لیا کہ میں نے اسے اغوا کرایا ہے تو پھر...؟“ ان کا انداز طنزیہ تھا۔

”تو پھر یہ کہا آپ اسے چھوڑیں میں سنیتا کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں غیرہ سے اس کا پتا معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔“ جان نے صلح جو انداز میں کہا۔ ایک بار پھر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔

”غیرہ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟“ انہوں نے ذمہ انداز میں پوچھا۔ جان کو دھچکا نہیں لگا کیونکہ یہ تجربہ ایک بار پہلے بھی کر چکا تھا۔

”اصل مسئلہ میرا اور غیرہ کا رشتہ نہیں آپ کی بیٹی کا ڈھونڈنا اور غیرہ کو رہا ہونا ہے۔ آپ غیرہ کو چھوڑ دیجیے میں سنیتا کو دس دن کے اندر ڈھونڈ کر لاؤں گا۔“ جان نے بہت نکل سے کہا۔

”ٹھیک ہے مگر تمہاری بات پر یقین کیسے کروں میں؟“ انہوں نے جانچنے والے انداز میں کہا۔

”تو میں آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہوں غیرہ کے ساتھ آپ مجھے بھی قید میں ڈال سکتے ہیں۔“ جان نے اپنے مطابق سزا کا انتخاب بھی کر دیا تھا۔

”ہوں... تمہارے ماں باپ سے میرے تعلقات اس طرح کے ہیں کہ تمہاری بات پر بے اعتباری میں نہیں کر سکتا۔“ غیرہ میری قید میں ہی ہے میں ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتا ہوں مگر نہ جانے کیا بات ہے اس لڑکی میں کہ کسی میں اب تک اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جس کوٹھڑی میں قید ہے اس میں کسی کو داخل ہونے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ میں خود بھی گیا تھا مگر مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اٹنے قدموں واپس آ گیا۔ میں اپنے ایک آدمی سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں وہاں تک چھوڑ آئے۔“ انہوں نے ایک ہی سانس میں یہ سب کہہ دیا اور جان نے سکون کا سانس لیا۔

کوٹھڑی میں نیم تاری تھی۔ وہ ایک کونے میں سجدہ ریڑھ تکی وہ بلند آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی۔

ترجمہ: اے ہمارے رب بے شک ہم تیرا ہی مال ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔“

یہ کیا لفظ تھے کون سی زبان تھی یہ؟ یہ وہی زبان لگی اسے جو وہ خواب میں سنتا رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگا۔

”غیرہ!“ اس نے باوقار اور بلند آواز میں یکارا تو غیرہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی وہ اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ یہ جان کی آواز ہی تھی وہ بلاشبہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی مصیبت میں بھی اس کی نجات کا راستہ بن گیا تھا۔ غیرہ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا وہاں سے نکلتے ہی مسٹر مہرا کے آدمی انہیں اسی کمرے میں لے آئے جہاں مسٹر مہرا اور جان کچھ دیر پہلے بیٹھے تھے۔

”آئیے جناب!“ مسٹر مہرا کے انداز میں اسنے کچھ شاطرانہ بین محسوس ہوا تھا۔

”سب کچھ طے ہو چکا ہے تو پھر کیوں بلوایا ہے؟“ جان نے ترش لہجے میں کہا۔

”بیٹھو۔“ انہوں نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ جان انہیں گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔

”آپ بھی بیٹھ جائیے استانی صاحبہ!“ انہوں نے طنز کیا غیرہ پر۔ غیرہ بجلت مجبوری بیٹھ گئی۔ آج سے پہلے وہ کبھی کسی نا محرم کے برابر نہیں بیٹھی تھی مگر حیران کن طور پر جان کے برابر بیٹھی وہ خود کو بہت زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا جان شاید مسٹر مہرا کو جانتا تھا بلکہ یقیناً جانتا تھا۔

”میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلوایا ہے کہ تمہیں تمہارے وعدے کی یاد دہانی کر دوں۔ تمہارے پاس صرف دس دن ہیں میری بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن اگر تم اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو میں غیرہ کو قید میں نہیں ڈالوں گا اور تم جانتے ہو تمہیں قید میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں صرف ایک ہی کام کروں گا...“ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور غیرہ کی جانب دیکھا ان کے چہرے پر پھیلا مسکراہٹ بہت شاطرانہ تھی۔ جان کو کسی ان دیکھے خطرے کا احساس ہوا۔ ”میں اس لڑکی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا اور پھر تمہیں قید میں ڈالنے یا قتل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس کے مرتے ہی تمہاری زندگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آخر تم اس سنا تی...“ جان کا رنگ فق ہو گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غیرہ کا تو حیرت سے برا حال تھا۔ اس ادھورے جملے سے جو معنی نکل رہے تھے انہوں نے غیرہ کو کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے جان کے بارے میں کیا سوچا تھا وہ کیا نکلا تھا۔ جان نے قدم آگے بڑھا دیئے تھے اس نے جان کی اٹھلید کی تھی۔

”ارے ہاں ایک اور بات۔“ مسٹر مہرا ایک بار پھر ان کے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ باری باری ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے جان سے مخاطب ہوئے۔ ”اپنی ماما کو میری طرف سے اپنی مگنی کی مبارک باد ضرور دے دینا۔“

”کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟“ جان نے غصیلے لہجے میں کہا اور مسٹر مہرا راستے سے ہٹ گئے۔

مصنوعی خوشبو اور کیمیکل سے پاک اور گینک آئل ہی جلد کی حفاظت کرتے ہیں!

اور گینک آئل ریلیف آئل

جوڑوں کے درد کا مستقل علاج ممکن ہے۔ انسانی جوڑوں میں جوڑو روٹی رطوبت ان کیلئے کر لیں گا کرتی ہے جب یہی رطوبت سرد خشک موسم یا سرد خشک اشیاء کے بکثرت استعمال سے خشک ہو جاتی ہیں تو جوڑخت (پتھر لے) ہو جاتے ہیں۔ حرکت کرنے پر آپس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ جس سے شدید درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ انسان اپنے معمولات زندگی میں صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتا تو کسی کو نماز جیسا اہم فریضہ ادا کرنے میں بھی انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات جوڑوں کی رطوبت ان قدر خشک ہو جاتی ہے کہ ان فلا کو پر کرنے کیلئے جسم کی دوسری رطوبت اس جگہ رخ ہو جاتی ہیں جس کے باعث درد کے ساتھ سوجن اور سوزش خاص کر گھٹنوں میں پیدا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں کوئی بھی تین گھنٹوں کی کھانے سے درد تو فوری طور پر کم ہو جاتا ہے لیکن چند گھنٹے بعد جوڑی دوبارہ کڑھ جاتا ہے اور اس شدت سے دوبارہ ہونے لگتا ہے اسی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے 100 برس کے ماہرین نے بیرونی استعمال کیلئے آرٹھک جین ریلیف آئل تیار کیا ہے اس میں شامل روٹی اور غذائی اجزاء جوڑوں میں جذب ہو کر رطوبت کو بحال کرتے ہیں اور چند دن کے استعمال سے نہ صرف درد سے مستقل نجات ملتی ہے بلکہ سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے نیز یہ آئل کرورد پٹیوں کے درد، مہرول کے درد عرق النساء میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے آپ بھی آزما لیں اور صحت کی بہاریوں کو واپس لائیں۔


اور گینک سٹینک آئل

اس آئل میں آکسیجن اور ہر جسم کے موٹا پائے نجات پائیں یعنی جسم کے جس حصے کا درد ہو اس حصے کو آئل لگائیں اور سلم سمارٹ نظر آئیں موٹا یا ایسا مرض ہے جو خاموشی سے کسی علامت کے بغیر حملہ آور ہوتا ہے اور سر میں کو اس کا علم تب ہوتا ہے جب غصے یا نار پڑ جاتی ہے طبی اعتبار سے موٹا یا نجات خورد ایک خطرناک بیماری ہے مگر موٹا پائے کی وجہ سے دیگر بہت سی خطرناک بیماریاں ختم نہیں ہوتیں بلکہ موٹا پائے کے علاج میں غصے کو یا خود کو امراض اور سوت کے منہ میں بکھیلنے کے مترادف ہے موٹا یا سوجن و خشک پائے کی طرح کہا جاتا ہے بالخصوص جراثیم اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ موٹا پائے کی وجہ سے جسم پھول کر موٹا، بعد اور لڑھکا ہوتا ہے۔ موٹا یا انسان کسی بھی مضمحل میں ہونے پر جگہ سمجھنا کا نشانہ ہوتا ہے موٹا پائے کے باعث جسمانی کا اور ذہنی کیفیت سے سانس پھول جاتا ہے طبیعت بد حال ہو جاتی ہے ناپاکی کی وجہ سے دیگر امراض اور امراض بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان تمام مسائل کے حل کیلئے ہنڈر ہنڈر بڑے کے ماہرین نے اور کھجک سٹینک آئل کے آٹ ایک ایسی برودک جنتی عرف کردانی سے تیار کیا تو ایسی میڈیکل نظر رکھ کر انتہائی محنت سے تیار کی گئی ہے جسے ہزاروں لوگوں نے استعمال کر دیا اور صحت مند بھی تیار حاصل ہوئے ہیں۔ اس آئل کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہر قسم کے جسمانی انتہا سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر موسم میں اور تمام درجات باخود استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم میں تازگی اور تندرستی کو بحال کرتا ہے۔ بالخصوص زگیل کے بعد اگر جیت یا جسم لڑھکا جائے تو اس آئل کا چند دن استعمال فرمائی سے تمام جسم کو خوش صورت اور صحت مند بنا دیتا ہے۔



طریقہ استعمال:

چند قطرے دروازہ 2 مرتبہ استعمال کریں
Rs. 495 (100 ml)



آپ میں اور کھجک سٹینک آئل پھر رسد کریں اور غیر ضروری چیزوں سے بچنے کیلئے احتیاط اور صحت بنائیں۔
دروازہ 2 مرتبہ استعمال کریں
Rs. 600 (200 ml)

0333-9619536	● کوہاٹ	0332-2544447	● چنبرہ	0313-8431943	● کوہاٹ	0321-2682667	● کوہاٹ
0322-9814004	● ساہیوال	0311-9291710	● ہری پور ہزارو	0300-5211354	● مظفر آباد	0345-8764226	● مظفر آباد
0300-8393627	● میان خٹواں	0992-335900	● ایبٹ آباد	0310-2020206	● پشاور	0300-2548293	● پشاور
0333-6756493	● جہلم	0305-5038040	● خوشاب	0300-5903904	● پشاور	0321-9125016	● مظفر آباد
0333-6004364	● گوت اور	0301-3580511	● حالہ (سوات)	0333-6037718	● ملتان	0307-2100345	● مظفر آباد
0307-6679957	● بہاولپور	0303-5208403	● صوابلی	0315-8701970	● مظفر آباد	0300-9447446	● مظفر آباد
0342-7323604	● ریسیم یا خٹواں	0333-6755442	● ٹوبہ ٹیک سنگھ	0333-6031077	● ڈیرہ غازی خان	0333-8834251	● مظفر آباد
0333-5783839	● تانسیہ	0315-4306257	● رائی پور	0321-6989035	● چشتیان	0300-6668972	● مظفر آباد
0322-6958870	● راجہ پور	0322-5420834	● ٹیکسلا	0334-4403452	● مظفر آباد	0345-7000088	● مظفر آباد
0300-7481663	● لیا پور	0333-5179523	● چین ایدال	0333-4985886	● بارون آباد	0311-0981002	● مظفر آباد
0301-6977023	● اہمر پور						

ہر شہر سے ڈیلرز کار ہیں اپنے علاقے کے قریبی شہر سے طلب کریں۔ پتہ اور رابطہ کریں۔ 0333-8834251



پانچ منٹ گزر گئے تھے اسے ڈرائیو کرتے ہوئے۔ اس دوران نہ تو عیبرہ نے اسے مخاطب کیا اور نہ خود اس نے عیبرہ کو۔ وہ بے تحاشا شرمندگی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے چورنگا ہوں سے عیبرہ کو دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں اس کا اندازہ اسے بہت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ عیبرہ کے دماغ میں عالیہ کے جملے گردش کر رہے تھے۔

”مجھے نہیں لگتا عیبرہ کہ اسے دسین اسلام میں کوئی دلچسپی ہے اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ پتا نہیں تم کیوں ڈھوکا کھا رہی ہو۔“ اس نے آنسوؤں سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔

”اس نے کتنا صحیح پہچانا تھا جان کو۔ اسے اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ صرف مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔ میں نے آج تک انسانوں کو پہچاننے میں کبھی بھی غلطی نہیں کی پھر جان کے معاملے میں مجھ سے اتنی بڑی چوک کیسے ہوگی۔ کیسے نہیں دیکھ پائی میں وہ جو عالیہ کو دکھ گیا؟“ عیبرہ کو خود پر جان سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔

”کیوں میں اس کی اصلیت نہیں دیکھ پائی اسے آپ کی جستجو نہیں تھی اللہ پاک تو پھر کیوں آپ نے میرے دل میں اس کے لیے اتنی غیر محسوس نرمی پیدا کی؟ کیوں آخر کیوں؟“ عیبرہ بری طرح تلملا رہی تھی۔ جان اس کے تاثرات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس سے مخاطب ہے یقیناً اسے رب سے۔

”سب تمہاری غلطی ہے جان! سراسر تمہاری۔ عیبرہ اب کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔“ اس نے دغا کر کے باہر راستے پر نظر پڑا۔

دیا کہ وہ میرے بارے میں اس حد تک سوچے۔ مجھے پہلے ہی دن اس سے برابر تازہ کرنا چاہیے تھا۔“ عیبرہ نے تاسف سے انداز میں سوچا۔

”اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے کبھی نہ پہچانا تھا کہ عیبرہ یہ بات جانے اگر آج اسے یہ پتا چلا ہے تو یہ قسمت میں تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا محبت گناہ نہیں۔“ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری اور اسے ہمت سی ملی تھی۔ اس نے روڈ پر نظر پڑا۔ عیبرہ کو مخاطب کیا۔

”سینا کہاں ہے عیبرہ!“ اس طویل خاموشی کو جان نے خود توڑا تھا۔ عیبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے گردن گھما کر عیبرہ کی جانب دیکھا اور پھر پوچھا۔ مگر اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ سگنل پر کار روکتے ہوئے اس نے پھر پوچھا اور اب کی بار عیبرہ نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔

”میں جانتا ہوں آپ اس وقت بہت غصے میں ہیں عیبرہ! اور آپ کا غصہ کتنا جائز بھی ہے مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کے بارے میں نہ سوچوں نہ چاہوں آپ کو۔“ اس کا یہ جملہ عیبرہ کے غصے میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ ”مگر جذبات پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا میرا بھی نہیں ہے۔“ جان نے بہت بے بس لہجے میں کہا گرین سگنل پر اس نے کار کا اسٹیئرنگ گھمایا۔

”گاڑی روکیں۔“ عیبرہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر بہت تیز لہجے میں کہا وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔

”میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکیں۔“ اب کی بار عیبرہ کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی تو عیبرہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر نہیں کھلا۔

”دروازہ لاکڈ ہے۔“ جان نے اسے مطلع کیا۔ ”دروازہ کھولیں۔“ جان نے عیبرہ کی بات نظر انداز کر کے کار اشارٹ کر دی تھی۔ ”میں نے کچھ کہا ہے جان!“ عیبرہ کو مزید غصہ آنے لگا تھا اس پر۔

”شاید آپ کی یہ پہلی بات ہے جسے میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔“ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی۔

”اسے شرمندہ ہونا چاہیے۔“ عبیرہ نے سوچا۔
 ”سینا کہاں ہے عبیرہ! میرا سے دس دن کے اندر
 ڈھونڈنا بہت ضروری ہے ورنہ.....“ اس نے جملہ ادھورا
 چھوڑ دیا تھا۔

”ورنہ کیا.....؟ منسٹر مہرا مجھے قتل کرویں گے تو کرویں
 مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ موت برحق ہے اور وہ سب کو
 آئے گی ایک دن۔“ عبیرہ نے بہت ترش لہجے میں کہہ کر
 اپنا رخ پھیر لیا۔

”انسان کی عزت نفس اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے
 اور اگر اس کا قتل کر دیا جائے تو پھر انسان بھی سر اٹھا کر چلنے
 کے لائق نہیں رہتا۔“ عبیرہ عبادا! ”جان کے اس جملے میں
 ایک ایسا فہم تھا عبیرہ اپنی جگہ گنگ رہ گئی تھی۔ اب کی بار
 اسے جان پر غصہ نہیں آیا تھا۔

”آپ منسٹر مہرا کو نہیں جانتیں وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے۔
 اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتیں۔“ جان اس کی جانب دیکھے
 بنا ہی کہتا رہا تھا۔ ”آپ نے آج تک انسان کا اچھا روپ
 دیکھا ہے کیونکہ آپ نے خود کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کیا
 مگر منسٹر مہرا جیسے لوگوں کے لیے اچھے برے لوگ سب
 ایک ہی لسٹ میں آتے ہیں۔ وہ سب کے ساتھ ایک ہی
 طرح پیش آتے ہیں۔ تین دن آپ ان کی قید میں رہیں
 کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتیں۔
 مگر آپ کے رب نے آپ پر کرم کیا لیکن یہ لازمی تو نہیں
 عبیرہ کہ آپ ہمیشہ ہی ان کے ہاتھوں سے بچ جائیں۔“
 عبیرہ کا رخ جھک گیا۔

”میں جانتا ہوں کہ آج میں آپ کی نگاہ میں ایک
 بہت بڑا انسان بن گیا ہوں اسی لیے آپ کو میرے ساتھ
 سفر کرنا بھی گوارا نہیں لیکن آپ کا رب جو سب کچھ دیکھتا
 ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو پاک باز نگاہوں
 سے دیکھا ہے آپ میری نگاہ میں اس دنیا کی سب سے
 پاکیزہ لڑکی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی
 بہت عزت کی ہے اور ہمیشہ کروں گا۔“ وہ خاموش ہو گیا تھا
 اتنا کہہ کر مگر اس کا دل اب بھی مخاطب تھا۔

”اور میں نے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کی
 ہے اور ہمیشہ کروں گا دن رات صبح شام۔ ماہ و سال وقت
 کی کوئی قید اس محبت کو ختم نہیں کر سکتی کبھی بھی نہیں ہرگز
 نہیں۔“ اس نے ایک نگاہ عبیرہ کے چہرے پر ڈالی۔ جہاں
 اب غصے کے کوئی تاثرات نہیں تھے غالباً اسے جان کی
 بات سمجھا گئی تھی۔ کار عبیرہ کے گھر کے باہر روکتے ہوئے
 وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا تھا۔

”پلیز عبیرہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سینا
 کا ہتا دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے
 نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔“ جان کا لہجہ بہت زیادہ سنجی تھا
 وہ عبیرہ کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ منسٹر مہرا کی بات نے اسے کتنا
 زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔

”سینا مسلمان ہو چکی ہے اس کا نام ایمان ہے اور
 اسے اخلاقی طور پر سپورٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے
 پھوپھی زاد کزن عبدالعزیز سے اس کا نکاح کروا دیا ہے۔“
 عبیرہ نے بہت دھیمے لہجے میں اسے بتایا۔

”اور وہ دونوں اب کہاں ہیں؟“ جان کی سانس میں
 سانس آئی۔

”وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔“ عبیرہ نے بھد کہا۔
 ”کیوں آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر؟“ جان تشویش کا
 شکار ہوا۔

”نہیں۔“ عبیرہ نے یک لفظی جواب دیا۔
 ”آپ بہت ضدی ہیں عبیرہ اور اس ضد میں آپ
 صرف اپنا نقصان کر رہی ہیں۔“ جان نے بہت آنسوؤں
 سے کہا اور سائیڈ پر لگا ایک مین پر لیس کیا تھا جس سے کار کا
 دروازہ کھل گیا۔

”شکریہ آپ نے میری بہت مدد کی مگر مجھے امید
 ہے کہ اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔“ عبیرہ نے حتی
 لہجے میں کہا۔

”نہ ملتے اگر آپ مجھے سینا کا پتا بتا دیتیں۔“ جان نے
 اسی کے انداز میں کہتے ہوئے ونڈا اسکرین سے باہر دیکھا۔
 احمد عبیرہ کے گھر سے باہر نکل رہا تھا وہ انہیں دیکھ چکا تھا۔

عبیرہ کاہر سے اتری اور احمد کے برابر سے گزر کر گھر میں
 داخل ہوئی۔ احمد کار کے قریب پہنچ کر کھڑکی پر جھکا تھا۔
 ”کہاں لے گئے تھے میری بیوی کو تمہاری ہمت کیسے
 ہوئی اسے لے جانے کی۔“ احمد نے کہا جانے والی نظروں
 سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

”بہت کم ظرف نکلے آپ تو منسٹر احمد! تین دن بعد
 آپ کی بیوی گھر آئی ہے اور آپ اس کا حال احوال
 دریافت کرنے کے بجائے یہاں کھڑے ہو کر ایک فضول
 بات پر بحث کر رہے ہیں۔“ جان نے تمل کر کہا وہ اس کا
 شکر ادا کرنے کے بجائے انٹاس پر شک کر رہا تھا۔

”اس کا حال احوال تو میں دریافت کر ہی لوں گا
 بیٹے تمہاری خیریت تو معلوم کر لوں۔“ اس نے اچانک
 ہی کار کا دروازہ کھولا اور جان کو گریبان سے پکڑ کر کار
 سے باہر نکال لیا۔

”چھوڑو مجھے۔“ جان نے اپنا گریبان چھڑانا چاہا۔

”بتاؤ کہاں تھے تم دونوں؟ ہم یہاں اتنے پریشان
 تھے اور تم مزے کر رہے تھے۔ آج نہیں چھوڑوں گا
 تمہیں اس دن تو عدیل نے بچا لیا تھا۔“ اس نے
 گریبان سے پکڑ کر جان کو بڑی طرح جھنجھوڑا لیا تھا اور
 پھر پوری قوت سے ایک مکا جان کے منہ پر مارا تھا اس
 کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس
 نے دوسری بار ہاتھ اٹھایا مگر اب کی بار جان نے اس کا
 ہاتھ مروڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔

”بہت ہی گری ہوئی اور گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔
 عبیرہ تین دن سے لاپتا تھی اور آپ اس کے صحیح سلامت
 واپس آ جانے پر شکر یہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری
 کر رہے ہیں۔ آپ بہت بے قدرے ہیں۔“ جان
 نے بہت تیز لہجے میں کہا اور گرد کے لوگ اب ان کے
 پاس جمع ہو گئے تھے۔

”تو تم کر لو اس کی قدر اور کر لو..... کیا کرتی ہوئی آخر
 تین دن تم دونوں نے ساتھ جو گزارے ہیں۔“ احمد نے چبا
 چبا کر کہا اور اس کے اس جملے کے ساتھ ہی ارد گرد کے

لوگوں میں چہ گویاں شروع ہو گئی تھیں۔
 ”جان اگر تم نے اس بات کی تردید نہیں کی تو عبیرہ
 تمہاری وجہ سے.....“ ایک دم ہی کسی نے اندر سے اسے
 جھنجھوڑا تھا۔

”تم بغیر جانے بوجھے عبیرہ پر الزام لگا رہے ہو احمد!
 عبیرہ میرے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی بلکہ اسے اغوا کر لیا گیا
 تھا انہی لوگوں نے اسے اغوا کیا جنہوں نے اسے جیل
 بھیجا۔“ جان نے بہت بلند آواز میں کہا تھا تا کہ ارد گرد کے
 لوگوں کے منہ بند ہوں اور ایسا ہی ہوا تھا۔

”اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کیا ہے اسی لیے یہ
 سب پر ہلنر فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔“ اس نے مزید کہا اب
 لوگوں کا رخ جھٹکنے لگا تھا کچھ لوگ احمد کو سمجھانے لگے۔ احمد
 مسلسل اسے گھورتا رہا جان پلٹ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔
 اس نے سکون کا سانس لیا کہ عبیرہ کے بارے میں کوئی بھی
 افواہ پھیلنے سے پہلے ہی اس نے بات کلیئر کر دی۔ احمد ایک
 بار پھر اس کی طرف بڑھا یا تھا۔

”تم دونوں سب کو بے وقوف بنا سکتے ہو مجھے نہیں۔ تم
 کو کیا لگتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ تم ہی کیوں اس کی مدد
 کو پہنچتے ہو؟“ احمد نے دانت پیس کر کہا۔

”یہ بات تو مجھے خود آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیشہ میں
 ہی کیوں عبیرہ کی مدد کے لیے منتخب کیا جاتا ہوں لیکن آج
 میں ایک بات ضرور سمجھ گیا ہوں۔“ جان نے بہت
 ٹھنڈے لہجے میں کہا۔

”تم ایک بہت تنگ ذہن انسان ہو احمد! میں عبیرہ کی
 بہت عزت کرتا ہوں مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے کیونکہ تم وہ
 انسان ہو جسے عزت اس نہیں آتی۔“ جان کا لہجہ اب بھی
 ٹھنڈا تھا اس نے کار کو پیچھے لیا اور رخ مین روڈ کی طرف
 کر دیا جب کہ احمد پلٹ کر عبیرہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔



آفس کی گلاس وال سے حد نگاہ تک پھیلے شہر کی
 عمارتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسی شہر کی
 ایک گلی میں احمد چھری رات میں وہ ہمیشہ کے لیے اس سے

پھڑکی تھی اور تب اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ اسے آخری بار دیکھ رہا ہے۔
 ”عبدالعزیز آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے عمیرہ کو اس رات آپ کے گھر کے باہر ہی چھوڑا تھا اور اس کے بعد جب میں دوبارہ وہاں گیا تو گھر پر تالا تھا۔ میں پچھلے دس سال سے اسی امید پر بیٹھا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی ملی ہی نہیں اگر وہ آپ دونوں کے ساتھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہاں گئی اس رات؟“ اس کے ذہن میں وہ دن گھوم رہا تھا جب عبداللہ عبدالرحمن کی بدولت وہ ایمان اور عبدالعزیز سے ملا تھا۔ ان سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی کہ اب وہ عمیرہ تک پہنچ جائے گا مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔

”اذان!“ کاشان نے اسے آواز دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا اسے۔ اس کی آنکھوں کا انداز اتنا بارل تھا کہ کاشان اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کاشان کی یہ حالت دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور رخ پھیرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔
 ”کاشان مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ کسی سے بھی نہیں۔“ اس نے بہت بے زار لہجے میں کہا۔

”اوکے۔“ کاشان بنا کوئی سوال کیے باہر نکل آیا مگر اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی وہ پچھلے دو ہفتوں سے اذان کو اسی حالت میں دیکھ رہا تھا وہ میٹنگ میں ہوتا اور کوئی رائے پوچھ لی جاتی تو ایسے چونک پڑتا جیسے کہ وہاں موجود نہیں ہو۔ موبائل زیادہ تر سوچ آف رہنے لگا تھا گھر پر فون کرنے پر گھر پر موجود نہ ہوتا اور موجود ہوتا تو بات نہ کرتا۔ ہر ایک سے بے زار نظر آنے لگا تھا۔
 ”کیا وجہ ہو سکتی ہے اذان کی اس حالت کی۔“ کاشان کوئی معنی اخذ نہیں کر پا رہا تھا۔

آئی سی یو کے باہر لگی چیئرز میں سے ایک کی بیک سے ٹیک لگائے وہ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ فوراً

اٹھ کھڑی ہوئی۔

”دیکھیے محترمہ ایک بہت شدید تھا۔ ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے آگے اللہ مالک ہے آپ آئی سی یو اور میڈیسنز کے بل کاڈنٹر پر ادا کر دیں۔“ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا۔

”یا اللہ پلینز بابا جانی کو ٹھیک کر دیجیے پلینز اللہ پاک۔“ اس نے سچی دل سے دعا کی تھی۔ کاڈنٹر پر آ کر اس نے پہلے گھر کال کی پھر اس کے بعد بل دیکھا بل بہت زیادہ تھا۔ اتنے پیسے تو اس کے پاس تھے بھی نہیں انی الفور اس کا ذہن ماؤف ہو گیا تھا۔ اس نے ریسیور دوبارہ اٹھایا اور احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہونے پر احمد کی حد درجہ بے زار آواز ابھری تھی۔

”ہیلو! کون؟“
 ”میں..... میں عمیرہ بات کر رہی ہوں۔“ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔

”تمہاری اہمیت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی۔ میں تم جیسی لڑکی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔“ احمد نے بہت ترش لہجے میں کہا۔

”احمد پلینز میری بات تو سنیں۔ بابا کی طبیعت بہتر خراب ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔“ احمد نے گڑگڑائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اللہ کے سوا کسی انسان کے سامنے۔

”جنہم میں جاؤ تم اور تمہارا باپ۔“ احمد نے زہر بار لہجے میں کہا۔ وہ مزید کچھ کہتا مگر کسی نے عمیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے کر فون بند کر دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا وہ جان تھا ساتھ ہی عدیل بھی کھڑا تھا۔ اس نے عمیرہ کی جانب دیکھے بنا بل ادا کیا اور پھر پلٹ کر ایک سمت میں قدم بڑھا دیئے۔

”عدیل بھائی! جان کو آپ نے بتایا؟“ عمیرہ نے نم پلکوں سے اس سے پوچھا۔

”وہ پریشان تھا تمہارے لیے احمد نے جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا اسے اندازہ تھا وہ تم سے کس طرح پیش

آئے گا اور ایک بات اور عمیرہ! میں معذرت چاہتا ہوں جس وقت تم آئی تھیں گھر عباد انکل کو اسپتال لانے کے لیے میں تمہارے ساتھ نہیں آسکا کیونکہ ابانے مجھے منع کر دیا تھا مگر میں جانتا تھا کہ وہ غلط ہیں اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ پلینز مجھے معاف کر دینا۔“ عدیل نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

”پلینز آپ معافی مت مانگیں عدیل بھائی!“ عمیرہ نے نم لہجے میں کہا بھی انہوں نے جان کو اپنی طرف واپس آتے دیکھا۔

”میں نے ڈاکٹرز سے بات کی ہے انکل کو روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ عمیرہ آپ کو کبھی پر اہم نہیں ہوگی رہنے میں۔ ہم لوگ یہیں ہوں گے آپ پریشان مت ہوئیے گا۔“ جان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ عمیرہ سر جھکائے سنتی رہی۔ اس میں سر اٹھانے کی ہمت تھی بھی نہیں۔ کچھ گھنٹوں پہلے اس نے بہت وثوق سے اسی انسان سے زندگی میں کبھی نہ ملنے کا کہا تھا اور چند گھنٹوں میں ہی اس کی یہ بات رد کر دی گئی تھی۔

”احمد نے بہت غلط کیا اسے عمیرہ کو کچھ کہنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔“ عباد صاحب کو روم میں شفٹ کر دیا تھا عمیرہ ان کے پاس ہی تھی البتہ عدیل اور جان روم کے باہر تھے۔ چیئرز پر بیٹھے تھے۔ عدیل بہت دیر سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا مگر جان خاموشی سے سن رہا تھا کچھ بول نہیں رہا تھا۔
 ”کیا بات ہے جان! تم اتنے خاموش کیوں ہو۔“ بلاتخر عدیل نے پوچھ ہی لیا۔

”کچھ نہیں عدیل! مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمیرہ کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار کہیں میں تو نہیں۔“ جان نے سرد آدھمیری تھی۔

”میں جان! تم نے تو اپنے طور پر سب کلیئر کیا تھا نا۔ اب یہ احمد کی کم نظرئی تھی کہ حقیقت جان لینے کے بعد ہمیں اس نے اتنی گری ہوئی حرکت کی۔ اس نے طلاق دے دی عمیرہ کو۔“ عدیل نے پُر افسوس لہجے میں کہا۔

”عمیرہ کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ وہ اس کی حق دار نہیں

پھر کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ سب۔ اس نے تو ایک نیک کام کیا ہے کیا تمہارا رب نیکی کرنے کی بھی سزا دیتا ہے؟“ جان نے پُر شکوہ لہجے میں کہا۔

”رب نے نہیں دی سزا اس کے بندوں نے دی ہے۔“ یہ آواز عمیرہ کی تھی ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کب روم سے باہر آئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔

”میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں آپ دونوں بابا کے پاس بیٹھ جائیں۔“ وہ اپنی بات کہہ کر مڑ گئی تھی۔

”کہاں جا رہی ہیں آپ عمیرہ!“ جان نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔
 ”وہ میں آنے کے بعد بتاؤں گی۔“ اس نے بامزے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے تھے۔



”چلو فائنلی تم مسکرائیں تو مجھے لگا تھا کہ اب تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بھی ٹکٹ لگے گا۔“ اس نے دل کھول کے تبصرہ کیا۔

”احرام!“ طوبی نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت ایک مارٹ میں تھے کار پیٹرول فلنگ کے لیے پارک کر کے وہ دونوں مارٹ میں آگئے تھے۔ وہ اکثر ہی اس طرح شاپنگ کرتے تھے۔ طوبی کو مٹی کے برتن ہمیشہ سے بہت پسند تھے اور آج بھی انہیں دیکھ کر ہی وہاں آ گئی تھی۔

”دیکھو احرام! یہ کتنا خوب صورت ہے۔“ طوبی نے ایک مٹی کا گلدان اٹھا کر اسے دکھایا تھا جس پر نفیس اور ریلیف نقش نگاری کی گئی تھی۔

”ہاں لیکن میرے پاس اس سے بھی زیادہ کچھ خوب صورت ہے تمہارے لیے۔“ احرام نے سسپنس پیدا کیا۔
 ”کیا.....؟“ طوبی نے وہ مٹی کا برتن رکھتے ہوئے متحس لہجے میں پوچھا۔ احرام نے مسکراتے ہوئے بیک سے اپنا ہاتھ سامنے کیا اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بیگ تھا۔ طوبی نے فوراً وہ بیگ لیا اور گلابوں کی

مہک کو ناک کے قریب لا کر محسوس کیا۔

”یہ بہت خوب صورت ہے۔“ طوبی نے کہا۔

”شکریہ۔“ احرام نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی خوش گوار موڈ میں وہ دونوں باہر نکل آئے۔

”آج ہم ساحل سمندر چلیں گے احرام!“ طوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”ضرور..... سبکی اور وہ بھی پوچھ پوچھ۔ میں چیک کرتا ہوں پیٹرول فل ہوا یا نہیں۔“ احرام مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔

”تم کتنے اچھے ہو احرام! تمہارے جذبوں میں کہیں دکھاوا نہیں کوئی مجبوری نہیں۔ زندگی کے اس عجیب دور میں بھی تم میرے ساتھ کھڑے ہو جب اپنی پہچان کھو بیٹھی ہوں میں طوبی یا مین سے.....“ ایک دم بہت تیز ہارن کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ بے دھیانی میں چلتی روڈ پر کار کے سامنے آگئی تھی۔ کار کے ٹائرز سے اچانک بربیک لگنے کے سبب بہت تیز آواز لگی تھی کہ پیٹرول پمپ پر موجود تقریباً سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ طوبی کے ہاتھ سے پھول چھوٹ کر زمین پر بکھر گئے تھے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔

”مس طوبی! آپ ٹھیک تو ہیں؟“ یہ آواز اذان کی تھی اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے..... غالباً وہ کار اذان کی تھی۔

”آئی ایم ریلی ویری سوری۔“ اذان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

”نہیں اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہی.....“ ایک دم اذان کی بیک سے ابھرنے والے چہرے کو دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ اذان نے پلٹ کر کا شان کو دیکھا اور حیرت کا شکار ہوا۔ تب تک احرام بھی ان تک پہنچ گیا تھا۔

”طوبی تم ٹھیک تو ہو؟“ اس نے گہرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ طوبی کے بجائے اذان مخاطب تھا۔

”آئی ایم سوری احرام! آج نہیں اچانک طوبی کیسے میری گاڑی کے سامنے آ گئیں۔“ اذان نے دیکھا کا شان کو دیکھ کر احرام کے تاثرات بھی ویسے ہی تھے جیسے طوبی کے۔

”انس او کے۔“ احرام نے مختصر کہا۔

”چلو طوبی!“ اس نے طوبی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا۔

”آخر ان دونوں کا رد عمل کا شان کو دیکھ کر ایسا کیوں تھا؟“ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا۔ کا شان کچھ دیر پہلے کی نسبت اب بالکل خاموش تھا۔

”طوبی یا مین اور احرام بہت اچھا کیل ہے نا۔“ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا اور کا شان کے چہرے کے تاثرات نے اسے مکمل داستان سادی وہ ہنسا تھا۔

محبت جیت ہوتی ہے
مگر یہ ہار جاتی ہے
کبھی دل سوز لہجوں سے
کبھی تقدیر والوں سے
کبھی مجبور قسمتوں سے
مگر یہ ہار جاتی ہے

اذان کو بلند آواز میں یہ نظم پڑھتا دیکھ کر کا شان حیرت زدہ رہ گیا۔

”نہیں پتا ہے آج طوبی کا میری کار سے یہ دوسرا ایکسیڈنٹ تھا۔ پہلا ایکسیڈنٹ اس کی شادی والے دن ہوا تھا۔“ اس نے دیکھا کا شان کی رنگت بالکل پھسکی بڑ گئی تھی۔

”لیکن احرام واقعی قابل تعریف ہے۔“

”شادی کے دن لڑکی کا گھر سے چلے جانا تم سمجھتے ہو لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں مگر اس نے طوبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اب تک اس رشتے کو قحطے ہوئے ہے۔“ اذان نے اسے سراہتے لہجے میں کہا اور کا شان نے آنکھیں بند کر لیں۔



آج ایک بار پھر وہ اس کی ٹیلیں پر سفید لٹافہ رکھ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔

”مستعفی؟“ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔

”نہیں۔“ کا شان نے یک لفظی جواب دیا۔

”پھر؟“ اذان کا انداز اب بھی سوالیہ تھا۔

”ٹرانسفر ریگولسٹ۔“ اس نے بچھے بچھے لہجے میں کہا۔ اذان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔

”کس سے بھاگ رہے ہو طوبی یا مین سے؟“ اذان نے بلا توقف کہا۔ کا شان نے چونک کر اسے دیکھا۔

”طوبی یا مین ہی وجہ تھی ناں پانچ سال پہلے بھی پاکستان چھوڑ کر جانے کی؟“ اذان اب بھی تسلسل سے بول رہا تھا۔ کا شان ہار جانے والے انداز میں اپنے پیچھے لڑکی چیئر پر بیٹھ گیا۔

”آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اذان! طوبی یا مین میری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا لیکن یہ زندگی اسے ایک بار پھر میرے سامنے لے آئی ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں اسے اور اسے بھی جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ دھوکا وعدہ خدانی سب کچھ۔“ اذان نے اس کے لہجے میں ایک خلش ایک تڑپ محسوس کی تھی۔

”کہانی کیا ہے؟“ اذان نے مدہم لہجے میں پوچھا اور کا شان کی نظروں میں کچھ منظر ابھرنے لگے۔

”آج سے چھ سال پہلے میری ملاقات طوبی سے ایک آرٹ نمائش میں ہوئی تھی۔ وہ پورٹریٹ کی نمائندگی کر رہی تھی پہلی نظر کے بعد میں اس پر سے نگاہ ہٹا نہیں پایا۔ میرے قدم خورد خورد اس کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ وہ کچھ لوگوں کو اپنی پورٹریٹ کا سینٹرل آئیڈیا بتا رہی تھی مجھ تک کہ وہ میری طرف بھی متوجہ ہو گئی۔ بہت سمجھانے کے باوجود بھی میں نے اسے سہی کہا مجھے سمجھ نہیں آیا بلا آخر اس نے تنگ کر مجھے کہا۔

”ٹرانسٹ تو بہت تیز دماغ ہوتے ہیں مگر آپ تو بہت کند ذہن ہیں۔ میں ہنس پڑا تھی اس کی ایک دوست نے

اس کا نام پکارا تھا۔“ طوبی نے وہ وہاں سے چلی گئی البتہ میرے ذہن سے گونج نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بہت جلد ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ وہ شہر کے ایک مشہور بزنس مین یا مین اسحاق کی اکلوتی بیٹی تھی اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں آرٹ اور ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اس کے ڈیپارٹمنٹ پہنچا تو مجھے دیکھ کر اس نے کتاب کے پیچھے منہ چھپالیا غالباً میں اسے یاد تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر اسے پہلو کہا تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ وہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی مگر..... مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ دن رات صبح شام اس کے روبرو آتا رہا یہاں تک اسے میری بات سمجھ آ گئی۔ میری محبت پر یقین آ گیا لیکن میری قسمت شاید میرے ساتھ نہیں تھی۔ نہ جانے نانوبی کو طوبی میں کیا کمی نظر آئی کہ انہوں نے اسے رد کر دیا۔ مجھے اپنی پرورش کا واسطہ دیا اور میں مجبور ہو گیا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے طوبی کا محبت سے بھرا دل توڑا تھا۔ اس دن بہت تیز بارش تھی وہ کیفے ٹیریا میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مانوس مسکراہٹ ابھری تھی۔

”اتنی دیر کہاں لگا دی کا شان! میں ایک گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ خیر چھوڑیں مجھے آپ کو ایک نیوز بتانی ہے ماما بابا مان گئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کل آپ آئیں گے ناں؟“ اس نے خوش کن لہجے میں کہا تھا۔

”میں نہیں آؤں گا آپ کو یا آپ کے والدین کو میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“ میں نے بہت روکے لہجے میں کہا اور اگلے قدموں پلٹ گیا تھا۔

”کا شان! کیا بات ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟“ وہ میرے پیچھے پیچھا آئی تھی۔

”نہیں طوبی! غلطی آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں آپ کی زندگی سے کھیلتا ہوں۔“ کہنے ٹیریا سے باہر آگئے تھے بارش اور بھی تیز ہو گئی تھی۔

”کاشان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟“ طوبی کا دل ڈوبنے لگا تھا۔

”دیکھیں طوبی!... اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے لیکن میں اپنی نانو بی سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ طوبی! آپ میری زندگی میں دھڑکن کی طرح ہیں لیکن میری نانو میری زندگی میں میری سانسوں کی مانند ہیں۔ میری زندگی کا تصور آپ دونوں کے بھائی ناممکن ہے مگر مجھے جب آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چھنے کا موقع ملا تو میں ان ہی کو چنوں گا اور میں نے انہیں ہی چنا ہے۔ میں ان کی مرضی کے خلاف آپ سے شادی نہیں کر سکتا آپ مجھے بھول جائیں۔“ میں اپنی بات کھل کر کے مڑنے لگا تھا مگر طوبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔

”آپ مذاق کر رہے ہیں ناں کاشان! مجھے پتا ہے آپ مذاق کر رہے ہیں۔“ طوبی کا لہجہ غیر یقینی تھا۔ میں نے طوبی کا ہاتھ جھٹک دیا۔

”میں مذاق نہیں کر رہا طوبی! اس حقیقت کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں آپ کے لیے بہتر ہوگا۔“ میں نے حتمی انداز میں کہا اور مڑ گیا۔

”کاشان!“ طوبی نے ڈوبتے دل اور ڈبڈبائی آنکھوں سے صدا لگائی مگر میں رکنا نہیں تھا۔

انتساب سنانے کے بعد کاشان کی برداشت جواب دے گئی تھی اس نے ٹیبل پر سر رکھا دیا جب کہ اذان اب ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔

دو دن بعد عباد صاحب کو ہوش آیا تھا مگر طبیعت بہتر نہیں تھی۔ ڈاکٹر انہیں چیک کر کے گیا تھا جان بھی ڈاکٹر کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔

”ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مسٹر چوہان! اب آگے اللہ مالک ہے۔“ جان نے صرف سر ہلایا تھا۔

”ڈاکٹر صاحب! کیا یہاں کوئی چیریٹی بکس وغیرہ ہے؟“ جان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا اور ڈاکٹر نے

اسے راستا سمجھا دیا تھا۔

”جان میں اسپتال کی ہر ادائیگی خود کرنا چاہتی ہوں اگر میں ایسا نہ کر پاتی تو میں کبھی سر اٹھا کر نہ چل سکوں گی۔ آپ ہی نے کہا تھا ناں کہ جب ایک انسان کی عزت نفس کو قتل کر دیا جائے تو وہ سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ میں ایک خوددار باپ کی بیٹی ہوں۔ میں یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتی کہ اپنے بابا جانی کی بیماری کے اخراجات کسی اور سے اٹھواؤں۔ آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں یہ ایک احسان اور کر دیجیے یہ پیسے واپس لیجیے۔“ چیریٹی بکس تک پہنچتے ہوئے اس کے ذہن میں عبیرہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ اس رات جب واپس آئی تھی تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے جان کو واپس کیے تھے۔ جان فوڈن تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے؟ کیونکہ انہیں استعمال وہ نہیں کر سکتا تھا مگر پھر اسے چیریٹی کا خیال آیا اور عبیرہ کی طرف سے اس نے وہ پیسے چیریٹی کر دیئے تھے۔

”شاید ان کا سب سے صحیح استعمال یہی ہو سکتا ہے۔“ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گیا۔ شام تک عباد صاحب کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ عبیرہ کے کہنے پر وہ گھر آ گیا تھا مگر دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔

”مجھے نہیں پتا مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں لیکن مجھے لگا ہے آپ کو مسٹر مہرا کو سنیٹا کا پتا بتا دینا چاہیے عبیرہ!“ وہ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ اسے اسپتال سے اطلاع ملی تھی کہ صبح پانچ بجے کے قریب عباد صاحب کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔

”اتنی پریشانی کا سامنا کرنے کے بعد یہ بات تو آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔“ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔

”جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ کبھی آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ آپ کے لیے بھی ہر پریشانی پریشانی ہے اور ہر مصیبت مصیبت لیکن میرے لیے ایسا نہیں ہے۔“ وہ

استول پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں عباد صاحب کا ہاتھ تھا وہ جیسے لہجے میں مخاطب تھی۔

”یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کیا اور نہ ہی ایسی بے اعتباری کا تجربہ کیا۔ لیکن پریشانیوں اس لیے نہیں آتیں کہ انسان پریشان ہو کر روئے۔ اللہ سے شکوہ کرے اور کبھی کبھی اللہ کے ساتھ کفر بھی کر بیٹھے۔“ وہ چند لمحوں کے لیے رکی تھی اور جان کو محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی کلاس روم میں تھا جہاں عبیرہ بچپن دیا کرتی تھی۔

”پریشانیوں انسان کی زندگی میں اس کا ایمان جانچنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ جو لوگ کچھ ایمان کے مالک ہوتے ہیں وہ جلد پریشان ہو کر ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے دن میں کتنی بار اس کی عبادت کی۔ کتنی بار اس کی یاد میں سجدے کیے کتنی نمازیں پڑھیں کتنی زکوٰۃ دی کتنی خیرات دی مگر خود یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی بار ان پر احسان کیا ان کے کتنے گناہوں کو معاف کیا ان کی کتنی گستاخوں کو نظر انداز کیا۔ ایسے لوگ حقیقتاً ناشکرے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان شکایات اور پریشانیوں سے گھبرا کر ناشکری کرنے کے بجائے اپنے رب سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔

اس سے ہر بل اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں شیطان کے بہکادے سے بچائے۔ صبر کرتے ہیں اور ہر ممکن طور پر شکر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ میں شامل تو ہو سکتی ہوں بس یہی بات اس کی پاک ذات کو راضی کرنے کی جستجو مجھے ایمان کو تحفظ دینے کی اہم عطا کرتی ہے اس نے مجھے اس زمین پر اگر کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی تھی اور آپ چاہتے ہیں جان میں اس خوش نصیبی سے ہاتھ دھو بیٹھوں ناراض کر دوں اس رب العزت کو جس کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ رب جو رات ہونے

اور دن کو اٹھنے سے پہلے میرے رزق کو طے کر دیتا ہے۔ وہ رب جو میری ہر آئی جاتی سانس کا مالک ہے جو میری غلطیوں پر میری سانسوں کے اس سلسلے کو توڑ نہیں دیتا جو اپنے کسی احسان کا مجھ سے بدلہ نہیں مانگتا۔ میں نے اس سے بے حد اور بے لوث محبت کی ہے اور میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔“ جان دم سادھے سن رہا تھا۔

”بے شک یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کس کو کس کام کے لیے بھیجا ہے مجھے بھی نہیں علم تھا کہ میں کبھی کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بنوں گی۔“ وہ چند لمحوں کے لیے رکی تھی اور شاید آپ کو بھی کبھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی آپ کسی مسلمان لڑکی کی اس طرح اور اس حد تک مدد کریں گے کیونکہ نہ یا آپ کی خواہش ہے اور نہ میری۔ یہاں کی مرضی اس کی سوچ ہے جس کی سوچ تک کبھی کسی کی پہنچ ممکن ہی نہیں۔ میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سے صرف کردار ہیں جو اس کے تخلیق کیے ہوئے ہیں اور اسی کے محتاج ہیں اور وہ ہمیں اپنا محتاج رکھے آمین۔“ عبیرہ خاموش ہو گئی۔

چند لمحے ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ رابداری میں چلتے ہوئے اس کے ذہن میں عبیرہ کے جملے گردش کرنے لگے تھے وہ لڑکھڑایا پھر سنبھلا دیوار کے ساتھ لگی چیر پر بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات گھومنے لگے تھے وہ پہلی بار عبیرہ کا اس کے روبرو آنا اور پہلی ہی بار میں اس کے دل میں عبیرہ کے لیے ان چاہی نری پیدا ہونا اُسے دیکھ کر ہر شے سے بے گانگی محسوس ہونا وہ سب کچھ جان کے ذہن میں فلم کی مانند چل پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ خواب گھومنے لگے تھے جو عبیرہ سے ملنے کے بعد اس نے دیکھے تھے۔

”سب کچھ کس طرح خود بخود ہوتا چلا گیا تھا کتنی تابعداری کتنی فرماں برداری کیوں؟ کس لیے کون ہے وہ عبیرہ کا رب جس نے مجھے جان ویراج چوہان کو ایک مسلمان کے لیے اتنا نرم دل بنا دیا میں جو مسلمانوں سے

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی ویسٹ

یہ ٹھکانہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✧ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریویو ایبل لنک
- ✧ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✧ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✧ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریٹ
- ✧ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ✧ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✧ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✧ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✧ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✧ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✧ سپریم کوالٹی مائیکرو ایف، کمپریسڈ کوالٹی
- ✧ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریٹ
- ✧ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسج کمانے کے لئے شرٹک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✧ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✧ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

[fb.com/paksociety](https://www.facebook.com/paksociety)



twitter.com/paksociety1

دونوں کے رب نے؟" اس کا ذہن ایک بار پھر منتشر ہو گیا تھا مگر اب کی بار اس نے ان سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔



کمرے میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کسی تھوڑے تھوڑے وقتے بعد کھانسنے کی آواز کمرے سے پھیلے سانسے کو توڑ رہی تھی۔ ایک دم ہی کھانسی کا دورہ شدید ہوا تھا۔ بل بھر کو ایسا محسوس ہوا کہ کھانسنے والے کا دم نکل گیا ہو مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔

"صغرا..... صغرا....." کھانتے ہوئے بہت لاغر آواز میں کسی ملازمہ کو آواز لگائی تھی کچھ ٹانیوں بعد ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور جلدی سے لائٹ کھولنے ہوئے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنی مالکین کو دیا پانی سے کچھ افاقہ ہوا پھر انہوں نے لڑکھرائی زبان سے بولنا شروع کیا۔

"صغرا! میرے پاس زیادہ دقت نہیں ہے..... تم..... تم..... میرے بیٹے کو بلا دو اس سے کہو..... آخری..... آخری بار مجھ سے ملنے آجائے بس ایک بار..... صرف....." ایک دم سے کھانسی پھر شروع ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے ساتھ رکھے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا جتنا بیل جا رہی تھی۔



"عیرہ!" اس کے کانوں سے عباد صاحب کی آواز ٹکرائی۔ وہ بیڈ پر ان کے ہاتھ کے قریب سر رکھے بیٹھی تھی ان کی آواز پر اس نے جلدی سے سر اٹھایا۔ "بابا جان! آپ ٹھیک تو ہیں نا۔" اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ "ہوں میں ٹھیک ہوں۔" انہوں نے بہت لاغر لہجے میں کہا۔

"میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔" وہ مزے ہوئے بولی۔

اس کو جاتا دیکھ کر عباد صاحب کے ذہن میں ایک ہی بات چلنے لگی تھی کہ ان کی بیٹی نے کیا قسمت پائی تھی۔ انہیں

اتنا بے زار تھا اس کے دل میں اتنی محبت بھری ایک مسلمان لڑکی کے لئے کون ہے وہ جسے اتنا اختیار ہے؟ کون ہے وہ رب؟ عجیرہ جس سے اتنی محبت کرتی ہے اتنی محبت کہ وہ اپنا سب کچھ اپنی جان بھی اس کے لئے قربان کر دینا چاہتی ہے۔ کیا میں بھی ابی رب کا بندہ ہوں؟ کیا میرا اور عجیرہ کا رب ایک ہے؟ کیا عجیرہ جیہز کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کیوں میرے پاس اپنے ہی سوالوں کا جواب نہیں؟ کیوں میں اپنے دین سے جڑی غلط فہمیوں کو دور نہیں کر سکتا؟ اور عجیرہ کیسے اپنے دین ہی نہیں ہر دین پر جامع گفتگو کر سکتی ہے؟" اس کا ذہن بڑی طرح منتشر تھا۔ ہمیشہ کی طرح عجیرہ کے آخری جملے اسے بڑی طرح ہلا گئے تھے بھی اس کا موبائل بجا اٹھا اس نے نام دیکھا لگی کی کال تھی جو اس کا کلاس میٹ تھا۔

"ہیلو۔" اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ "ہیلو جان! کہاں ہو یا راج پیر اشارت ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے سب لوگ آگئے ہیں آج تم اتنے لیٹ کیسے ہو گئے؟" اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ "پیر.....؟" جان نے حیرت سے دہرایا۔ "ہاں آج پبلک ریلیشن کا پیر ہے تم بھول گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟" وہ مزید حیرت کا شکار ہوا۔ "لیکن مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میں آ رہا ہوں پندرہ منٹ میں۔" اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کال ڈس کنیکٹ کر دی۔

"بے شک میرا رب ہی جانتا ہے اس نے اس دنیا میں کس کو کس کام کے لیے بھیجا ہے۔" لفت کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک بار پھر عجیرہ کے جملے گونجے تھے۔

"حقیقتاً اگر لگی نے مجھے کال نہ کی ہوتی تو میں آج کے پیر میں غیر حاضر ہو جاتا۔ آج تک چار سالوں میں مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی مگر آج..... آخری سال کے آخری سمسٹر میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ پر مجھے بچالیا کس نے.....؟ عجیرہ کے رب نے؟ میرے رب نے؟ یا ہم

وہ لمحے یاد آنے لگے تھے جب احمد نے عیبرہ پر الزامات لگائے تھے خود ان سے بھی کتنی بدتمیزی کی تھی اور اسی بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔

”کاش کہ میں نے عیبرہ کو اس نکاح کے لیے راضی نہ کیا ہوتا۔ کاش میں بھی احمد کی اس حقیقت کو دیکھ پاتا جسے عیبرہ نے دیکھا۔ کاش..... کاش..... مگر اس رتبہ کے آگے سب مجبور ہیں وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی اس کے بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے مگر اس رشتے کے ختم ہونے میں عیبرہ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ کیا سوچ رکھا ہے میرے رتبہ نے عیبرہ کے لیے؟ کیا احمد سے بہتر ہے جسے میرے رتبہ نے عیبرہ کے لیے منتخب کیا ہے؟“ چبھی کرے گا دروازہ کھلا اور عیبرہ کے ساتھ ڈاکٹر اور نرس داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور نرس نے انہیں انجکشن لگایا۔

”بیاب بہتر ہیں۔ ڈاکٹر نے عیبرہ کو مخاطب کیا اور پھر چلا گیا۔ عیبرہ اسٹول پر بیٹھ گئی اور عباد صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔

”میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے ناں بابا جانی!“ عیبرہ نے نم لہجے میں کہا۔

”آپ تو میری سب سے پیاری بیٹی ہیں عیبرہ! آپ کو دیکھ کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے آپ میرے لیے پریشانی کا سبب کبھی بھی نہیں ہو سکتیں۔ بس غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آپ کے انکار کے باوجود میں نے آپ کی زندگی ایک غلط انسان کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا عیبرہ! زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں.....“ عیبرہ نے انہیں پیچ میں ہی ٹوک دیا۔

”آپ ایسی باتیں نہ کریں بابا جانی! آپ نے کوئی غلطی نہیں کی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور آرام کریں۔“ عیبرہ کی اس بات پر وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئے جب کہ عیبرہ بنا آواز کے رو رہی تھی اس نے زندگی میں کبھی اپنے بابا جانی کو اتنا بیمار نہیں دیکھا تھا اور اسی لیے اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی اس

کا دل ایک ان رکھے خوف کا شکار تھا۔ وہ اپنے بابا جانی سے بے حد محبت کرتی تھی اور کسی بھی قیمت پر ان سے دور نہیں چاہتی تھی۔



”آپ کا پروجیکٹ تو بہت کامیاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اذان لیکن اگر آپ اپنا یہ اسٹیٹیوٹ شہر میں قائم کریں گے تو زیادہ کامیابی ہوگی۔“ کاشان نے مشورہ دیا۔ وہ دونوں اس وقت اذان کے پروجیکٹ سائڈ سے واپس آ رہے تھے۔

”دیکھو کاشان! شہروں میں اسلامک سینٹرز کی کمی نہیں اور شہر میں لوگ پڑھے لکھے ہیں اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے بھی ہیں مگر ہم کسی گاؤں میں چلے جائیں اسلام کے حوالے سے لوگوں میں بالکل ہی معلومات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ لوگوں کو اسلام کے

دوسرے اذکار کے بارے میں معلومات تو درکنار وہ اسلام کی بنیاد اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ کلمہ طیبہ وہ لوگ اس سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جس کال وین کا وہ لوگ حصہ بنیں وہ اسے اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ دین سے دوری کا مطلب ہے اپنے رتبہ سے دوری اور رتبہ سے دوری انسان کو گمراہی اور جہالت کے ان اندھیروں میں پہنچا دیتی ہے جہاں وہ نیکی اور گناہ کے ہر فرق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور ہر کبیرہ صغیرہ گناہ بھی ایک نارمل روٹین کی طرح کرتا ہے یہاں تک کہ شرک بھی۔“ اذان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

”ہوں..... میں نے اس زاویے سے تو سوچا ہی نہیں تھا یہ تو آپ نے ٹھیک کہا اذان! لیکن پھر اسلامک سینٹر میں ہی آپ مہارت تعمیر کلاسز بھی پلان کر رہے ہیں کیوں؟“ کاشان کا انداز ایک بار پھر نہ سمجھنے والا تھا۔

”اچھا سوال ہے۔“ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”کیونکہ دینی علم آجانے سے ان کے پاس روزی کا

ذریعہ نہیں آجائے گا۔ اس لیے دین کی بیداری کے ساتھ ضروری ہے کہ ان کی پاس کوئی ایسا ہنر ضرور ہو جو ان کی روزی کا ذریعہ بن سکے اگر ہم کوئی اسکول قائم کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں گے اور فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے انہیں اچھے کئی سال چاہیے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ پڑھ لکھ کر انہیں نوکری کے لیے شہر ہی آنا پڑے گا اور میں شہر میں شہر والوں کے لیے تو نوکریاں ہیں نہیں انہیں کہاں سے ملیں گی۔ اسی لیے میں نے یہ کلاسز کی ہیں یہ کلاسز ہر عمر کے انسان کے لیے ہیں۔ ان مہارت کو سیکھ کر یہ لوگ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر سکیں گے اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم بھی دلا سکیں گے اور پھر تم نے یہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا ہنر بادشاہ ہے۔“ اذان نے آخری جملہ کہہ کر اپنی بات پر مہر لگادی۔

”بہت اچھا خیال ہے۔ میں تو یہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا۔“ کاشان نے معترف ہوتے ہوئے کہا۔

”شکریہ۔“ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”مگر یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں کہ اتنی بہترین سوچ رکھنے والا انسان بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اینارل ہے پارہ چکا ہے ناں اذان.....“ کاشان نے مسکراتے ہوئے جانچنے والے انداز میں کہا۔ اذان نے لبوں پر ایک بے بسی مسکراہٹ ابھری تھی۔

”موجودہ دور میں ہر انسان کسی نہ کسی حد تک اینارل ہے اس کی وجہ یا تو اس کا آج ہے یا پھر گزرا ہوا کل۔“ اذان نے نارمل انداز میں بڑا سنجیدگی سے کہا۔

”کیا آپ کا بھی کوئی گزرا ہوا کل کوئی ماضی ہے اذان؟“ کاشان کا انداز اب پیچسن تھا۔ اذان اب کی بار ہنساتھا۔

”میں صرف مذاق کر رہا تھا تم تو سیزلین ہونے لگے۔“ کاشان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔

”آپ مذاق کر رہے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچھبھے پندرہ دن سے اتنے ڈپر ہیں کیوں تھے؟“ کاشان بھند ہوا۔

”یہ کیا منطق ہے کاشان! کیا لازمی ہے کہ ڈپر لیس ہونے کے لیے ہماری زندگی میں کوئی ماضی ضرور ہو۔“ اذان نے اب کی بار جھنجھلائے والے انداز میں کہا۔

”نہیں یہ لازمی نہیں مگر جو لوگ ہمارے دل کے بہت قریب ہوں اگر وہ ہماری زندگی میں شریک سفر ہیں تو ہم زندگی میں آنے والی بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ہنس کے سہہ لیتے ہیں لیکن اگر وہی لوگ ہم سے چھڑ جائیں کہیں کھو جائیں تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے اور میں نے اس دن آپ کی آنکھوں میں بے معنی ہوتی زندگی کا عکس دیکھا تھا۔“ کاشان بہت جذب سے کہہ رہا تھا اور اذان کے چہرے پر سنجیدگی چھانی جا رہی تھی۔ اذان کے ذہن میں ایک دم ایمان کے لفظوں کی بازگشت شروع ہو گئی تھی۔

”اذان ہمارے نکاح والے دن عیبرہ ہمارے ساتھ تھی اس کے بعد وہ ہم سے کبھی نہیں ملی۔ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور وہ ہم سے رابطہ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے بتا ہی نہیں تھا کہ ہم گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ عبدالمعیز کی اماں ہمیں اپنے گاؤں لے گئی تھیں ہم دو سال وہیں رہے پھر عبدالمعیز نے یہاں آ کر اپنی جا ب تلاش کر لی اور تقریباً ڈھائی سال بعد میں اور اماں بھی شہر آ گئے۔ ہم نے عیبرہ سے ملنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔“

”اذان ادھر دیکھو.....“ کاشان پوری قوت سے چیخا تھا وہ گہری نیند سے جاگا تھا جیسے ایک ٹرک بہت تیزی سے ان کی کار کی سمت میں ہی آ رہا تھا۔ اذان نے فوراً اسٹیئرنگ گھمایا اور کار کچے میں اتر گئی تھی۔ کار رکتے ہی کاشان مخاطب ہوا۔

”کب سے کہہ رہا ہوں اذان دیکھو سامنے سے ٹرک آ رہا ہے مگر نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو۔“ اذان بنا کوئی جواب دینے کار سے اتر گیا تھا کاشان بھی اتر آیا۔ مغرب میں سورج ڈوب رہا تھا کار سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ کاشان سے مخاطب ہوا۔

”آئی ایم سوری کاشان! آج میری وجہ سے تمہاری زندگی..... آئی ایم سوری۔“ اس کے لہجے میں

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ

یہ ٹھکانہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✧ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریزیوم ایبل لنک
- ✧ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر پو پو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✧ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✧ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریٹخ
- ✧ ہر کتاب کا الٹک سیکشن
- ✧ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✧ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✧ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✧ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✧ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایپلوڈنگ
- ✧ پیریم کوالٹی، ہارل کوالٹی، کیریئر کوالٹی
- ✧ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریٹخ
- ✧ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرٹک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✧ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✧ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



”ارے تمہارے پیپرز کیسے رہے؟“ انہیں اچانک یاد آیا۔

”اتھتھے رہے مگر ابھی صرف دو ہوئے ہیں۔“ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ”مما ایک بات پوچھوں آپ سے؟“ اس نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا۔

”ہاں کہو“ وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔

”ڈیکوریشن کے دوران مجھے پتا چلا کہ بابا کا اسٹڈی روم آپ نے کبھی کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی وہ بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے۔“ جان کے لہجے میں الجھن تھی۔

”اس کی دو وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں اور دوسرا اس کمرے سے تمہارے بابا کی یادیں جڑی ہیں۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد جب بھی اس کمرے میں گئی تو شدید ڈپریشن کے دورے کا شکار ہوتی۔ اسی لیے پھر میں نے خود وہ کمرہ بند کر دیا کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر تمہیں کون سنبھالتا۔“ ان کا لہجہ دکھ سے بھر پور تھا اور آنکھوں میں بھی ہلکی ہلکی نمی نظر آنے لگی تھی۔

جان کو لگا تھا کہ اس نے غلطی کی ان سے سوال پوچھ کر۔

”آئی ایم ریسٹی ویری سوری ماما! میرا ارادہ آپ کو دکھی کرنے کا نہیں تھا۔“ وہ ان کے گلے لگ گیا اور اس کی ماما کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی جب کہ دور کہیں نگاہیں یہ منظر دیکھ کر برسنے لگی تھیں۔

”کیا حقیقت کبھی سامنے نہیں آئے گی میرے مالک! کیا اس چہرے سے کبھی نقاب نہیں اٹھے گا؟“ مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔



آج عباد صاحب کو ہسپتال میں پانچ دن ہو گئے تھے گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ وہ خود سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ ایک دم اتنی بہتری آگئی تھی طبیعت میں۔ عدیل کچھ دیر پہلے ہی گھر گیا تھا مگر جان ابھی بھی بیٹھا تھا جان نے کئی بار یہ بات نوٹ کی تھی کہ عباد صاحب بہت

غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔

”جان بیٹا! ایک بات کہوں آپ سے؟“ بلا حرج مخاطب ہوئی گئے۔

”جی انکل پلیز۔“ جان نے بہت تابعداری سے کہا جب کہ غیرہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔

”آپ کے ہر انداز میں چہرے کے خدو خال میں میرے کزن کی شبیہ آتی ہے۔“ انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔

”اچھا انکل پھر تو میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گا۔“ جان نے بہت خوش مزاجی سے کہا۔

”تم اس سے مل نہیں سکتے کیونکہ وہ تقریباً تمہاری ہی عمر کا تھا جب اس کی وفات ہو گئی تھی۔“ انہوں نے بہت افسوس سے کہا۔

”اوہ.....! یہ سن کر دکھ ہوا۔“ جان نے افسوس سے کہا تبھی کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا اور پھر آسٹلی سے کھول دیا گیا۔ جان نے دیکھا دروازے سے داخل ہوتا ہوا شخص تقریباً پچاس کے لگ بھگ تھا۔ چہرے پر غمی داڑھی تھی سفید شلوار قمیص میں بلبوس ان کی شخصیت بہت پر وقار لگ رہی تھی۔ جان نے خود کو ایک عجیب سحر ایک عجیب محویت کا شکار محسوس کیا تھا۔ ان کے ماتھے پر ویسا ہی گہرا سیاہ نشان تھا جیسے اس نے عباد صاحب کے ماتھے پر دیکھا تھا۔ غیرہ ان سے بہت ادب سے مخاطب تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دے رہے تھے ان کی آواز بہت میٹھی اور دل کو گرویدہ کر لینے والی تھی ان کے لبوں پر وہی ہر سبکون مسکراہٹ تھی جیسی اس نے ہمیشہ غیرہ کے چہرے پر بکھری دیکھی تھی۔ غیرہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک نگاہ جان پر ڈالی تھی۔ جان کا پورا وجود تھر تھرا گیا تھا اس نے نگاہیں جھکا دی تھیں۔

”سر! ان سے ملیں یہ جان ہیں انٹرنشپ کے دوران میرے طالب علم رہ چکے ہیں۔“ جان نے دیکھا غیرہ اس کا تعارف کروا رہی تھی اس شخص سے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ جان کی طرف بڑھایا تو جان نے بحالت مجبوری ہاتھ اٹھا

کی طرف بڑھاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔


”یہ میرے پروفیسر ہیں جان! پروفیسر خالد عباسی۔“
عبیرہ نے اب جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
”جان.....؟ حیرت انگیز! پہلی نظر میں کوئی یہ اندازہ
کر ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک مان مسلم ہیں؟“ ان کے لہجے
میں حیرت تھی مگر جان کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔
”کوئی بات نہیں مسٹر عباسی! انسان کو اکثر ایسی غلط
فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ میں ابھی جلدی میں ہوں ورنہ اچھی
گفتگو ہوتی۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔“ جان نے
جلدی جلدی سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ
میں سے نکال لیا۔

”یقیناً اللہ نے چاہا تو ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی۔ یہ
میرا روزیننگ کارڈ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو
اس کی ضرورت پڑے گی۔“ انہوں نے ایک کارڈ اس کی
طرف بڑھاتے ہوئے بہت پرسکون لہجے میں کہا۔ جان
نے ابھی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر کارڈ پکڑتے
ہوئے عبیرہ سے مخاطب ہوا۔

”اوکے عبیرہ! میں چلتا ہوں پھر آؤں گا اور عدیل کو بھی
یاد کروں گا کہ وہ آپ کی ماں اور بہن کو لے آئے اسپتال۔“
عباسی صاحب بہت غور سے دیکھ رہے تھے اسے عبیرہ سے
بات کرتے ہوئے۔ وہ وہیں سے مڑا اور روزانہ کی طرف
بڑھ گیا۔ عباسی صاحب نے ایک نگاہ غور سے اب عبیرہ کو
دیکھا اور پھر مسکرا دیئے۔

”کیا ہوا سراسر! عبیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔“

”کچھ نہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہارا طالب علم مجھ سے ڈر
گیا۔“ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور عبیرہ بھی
مسکرا دی۔



”اذان! آؤں آ رہا ہے جس کا تم اتنی بے صبری سے
انتظار کر رہے ہو؟“ کاشان بہت دیر سے لوٹ کر رہا تھا کہ
وہ اتر پورٹ لاؤنج میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور بار بار
گھڑی بھی دیکھ رہا تھا۔

آنچل ✨ جنوری ✨ ۲۰۱۵ء 70


”میرا بہترین دوست میری جان میرا عدیل! کوئی
سے واپس آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی لوٹ کر
ہے میری طرف۔ میں بہت خوش ہوں کاشان!“ اس کے
ہر جملے میں خوشی کا رنگ بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کاشان
اس شخص سے بھی مل لیا تھا جس کا انتظار اذان اس قدر بے
صبری سے کر رہا تھا وہ ایک درمیانے قد کا لڑکا تھا سیاہ بال
گندمی رنگت خوش مزاج۔ اذان بڑی گرم جوشی سے اس
سے گلے ملا اور پھر کاشان کا تعارف کرایا اس سے۔ عدیل
سے مل کر کاشان کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں محسوس ہوا
تھا کہ وہ اس سے پہلی بار مل رہا ہے۔

”تمہاری پی ایچ ڈی کیس کی رہی؟“ اذان نے بیک وقت
مر میں عدیل کو مخاطب کیا۔

”وہ اندازہ تو تمہیں میری دماغی حالت سے ہوگا جب
تمہیں صبح اندازہ ہوگا کہ میری پی ایچ ڈی کیس کی رہی؟“
عدیل نے بالکل سنجیدہ لہجے میں کہا اور وہ دونوں ہنس پڑے
اس کی بات پر۔

”مجھے لگا تھا کچھ سدا آجائے گا تم میں لیکن وہ عدیل
ہی کیا جو بدل جائے۔“ اذان نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔
”یہ معاملہ صرف میرے ہی نہیں تمہارے ساتھ بھی
ہے محترم! بدلے تو تم بھی نہیں ہو تمہارے دل تنگ
رسائی ہے مجھے۔“ عدیل نے دعویٰ کیا اور اس بات پر
اذان نے نگاہیں چرائی تھیں جب کہ کاشان کے دل کو
لگی یہ بات۔

”اذان کا بہترین دوست وہ تو اذان کے بارے میں
سب کچھ جانتا ہوگا۔“ کاشان کا دماغ ایک دم ہی بے قرار
ہو گیا تھا۔ اذان نے موضوع بدل دیا کار اپنی منزل کی
طرف رواں دواں تھی۔



”عدیل آج انکل کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ تم عبیرہ
کے ساتھ انہیں گھر لے جانا۔ میں کراچی کے لیے نکل رہا
ہوں تم نے جو ایڈریس دیا ہے عبیرہ کی پھوپھو کا میں ایک بار
وہاں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کام بن جائے۔“

جان نے اسپتال سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔

”میرے خیال میں تو تمہارا جانا بے کار ہے کیونکہ یہ
ایڈریس پرانے گھر کا ہے۔“ عدیل نے اسے سمجھاتے
ہوئے کہا۔

”وہاں جا کر ہو سکتا ہے مجھے نئے گھر کا ایڈریس مل ہی
جائے۔ امید پر دنیا قائم ہے عدیل اور پھر مسٹر مہرا سے کسی
رحم کی توقع نہیں ہے۔“ جان بہت جذب سے کہتا چلا گیا
اور عدیل نے صرف اثبات میں سر ہلایا۔



”اماں! اذاکڑ نے کہا ہے کہ بابا جانی کو اب کسی قسم کا
صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے بہت مشکل سے ان کی حالت
سنجھلی ہے اس لیے ہمیں اب بہت احتیاط سے کام لینا
ہوگا۔“ عبیرہ نے بہت دھیمے لہجے میں کہا وہ دونوں اس
وقت عباد صاحب کے کمرے کے باہر کھڑی تھیں عبیرہ
کچھ دیر پہلے ہی انہیں لے کر گھر آ گئی تھی۔

”ہاں! ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔“ انہوں نے عبیرہ
کی تائید کی۔


”یہ عالی کہاں ہے اماں؟“ اچانک ہی عبیرہ کو اس کا
دھیان آیا۔

”وہ ٹیوشن گئی ہے بڑی مشکل سے چھوڑ کر آئی ہوں۔
تمہیں تو پتا ہے ناں پڑھائی میں تو اس کا دماغ لگتا ہے نہیں
پس پورا دن تصویریں بنوا لو اس سے۔“ وہ خفا ہونے لگی
تھیں جب کہ عبیرہ مسکراتی ہوئی اندر کی طرف آ گئی۔

پکڑے پیچ کر کے اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے
اور پھر بستر پر لیٹی تھی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اس کے
ذہن میں وہ دن گھوم گیا جب اسپتال میں ادائیگی کرنے
کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور جان نے ادائیگی
کی تھی۔ اس دن عبیرہ کو جس قدر شرمندگی کا سامنا ہوا تھا
شاید ان کا اندازہ خود اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اسی
لیے اس نے اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے اپنی سونے کی
بالیاں اور سیٹ جو اس کی اماں نے شادی کے لیے بنوایا تھا
بیچ دیا تھا۔

”آج جان صبح کے بعد واپس نہیں آیا ورنہ تو دن میں
دوبارہ ضرور آتا ہے۔“ اس نے لیٹے لیٹے سوچا۔

”خیر جو بھی ہوا اللہ پاک اس نے ہمیشہ میری بہت مدد
کی ہے تو اسے اس کا اجر ضرور دینا اور اس کا سب سے بڑا
اجر تو یہ ہوگا کہ تو اسے اپنی محبت عطا کرے اپنی جستجو عطا
کرے اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے دین سے اسے
سرفراز فرما آمین۔“ عبیرہ نے ہمیشہ کی طرح اپنے رب کو
صدق دل اور بہت سچائی سے پکارا تھا۔ مگر خود اسے یہ معلوم
نہیں تھا کہ اس کے معصوم دل کی دعا جان کے لیے کتنی
بڑی مصیبت کتنا طویل امتحان بنے گی۔



صبح صادق کا وقت تھا الٹی خنک سی ہو تھی۔ چاروں
طرف بہت تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ حطیم (خانہ کعبہ کے
سامنے کچھ فاصلے پر بنی سنگ مرمر کی چھوٹی سی آدھی گول
دیوار) کے اندر خانہ کعبہ کے در و درجہ ریز تھی۔ ایسا محسوس
ہو رہا تھا جیسے ہر شے اپنے پاک و بلند بزرگی اور صاحب
قدرت رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ ہر نظارہ منور محسوس
ہو رہا تھا بھی ایک بہت صاف اور خوش الحان آواز سنائی دی
تھی شاید مسجد حرام (خانہ کعبہ کے گرد جتنے حصے میں نماز
پڑھی جاتی ہے اسے مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد کہا جاتا
ہے) میں کوئی اذان دے رہا تھا آواز اتنی میٹھی تھی کہ وہ
سجدے سے سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا
مگر کوئی نظر نہیں آیا بلکہ آواز خردہ اٹھ کر حطیم سے باہر نکل آئی۔
آواز خانہ کعبہ کے دوسری طرف سے آ رہی تھی وہ آگے
بڑھی تو بہت تیز روشنی اس کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہوئی
محسوس ہوئی۔ وہ مزید آگے بڑھی تو آواز اور روشنی دونوں ہی
مدھم ہو گئی تھیں اور وہاں پہنچنے پر اسے آواز اب اگلی طرف
سے آنے لگی وہ گول چکر لگا کر اگلی طرف آئی تو پچھلی طرف
سے آنے لگی تھی۔ اس طرح تقریباً سات بار ہوا تھا اور اس
نے سات بار خانہ کعبہ کے چکر لگائے تھے لیکن جب
ساتویں بار وہ خانہ کعبہ کے در و آئی تو اس نے وہاں کسی کو
احرام باندھے سجدے کی حالت میں پایا پھر وہ شخص سجدے

آنچل ✨ جنوری ✨ ۲۰۱۵ء 71

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی خدمات

یہ تمام پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ☆ ہر ای بنک کا ڈائریکٹ اور رٹیریوم ایبل لنک
- ☆ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بنک کا پرنٹ پر یو یو
- ☆ ہر پوسٹ کے ساتھ
- ☆ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ☆ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ☆ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ☆ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
- ☆ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ☆ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ☆ ہر ای بنک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ☆ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ☆ بریم کوالٹی، نڈس کوالٹی، کیریڈ کوالٹی
- ☆ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ☆ ایڈفری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

دو ادیب سائٹ جہاں ہر کتاب فورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤنلوڈنگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan

Like us on Facebook fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



اندھی سڑک پر چلتے ہوئے اسے بہت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی سڑکیں ویران تھیں۔ وہ رات کے اس وقت بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی مگر آج قسمت نے اسے یہ دن بھی دکھایا تھا۔ وہ عبدال کے گھر گئی مگر اس کی بہن نے عجیبہ کی شکل دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ عجیبہ کو بہت دکھ ہوا اس کے رویے پر۔ کل تک یہی لوگ خلوص و اخلاق اور محبت و وفا کے پیکر تھے اور آج بے حس اور بے مردتی کی مجسم حقیقت بن گئے تھے۔

”زندگی ہر پل بدلتی ہے، کبھی ہم کامیابی کی انتہاؤں کو چھوتے اور کبھی زوال کی پستیوں میں پھینک دیئے جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں زندگی کی شاہراہ پر سفر کرنے کے لیے روشن راہیں فراہم کی جاتی ہیں اور کبھی ہر راہ تاریک کر دی جاتی ہے۔ روشن راہوں پر چلنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی مگر تاریک راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک مضبوط سہارے کی اور آپ کو بتا رہے کہ وہ مضبوط سہارا کیا ہے؟ وہ مضبوط سہارا انسان کا اپنے رب پر توکل اپنے رب پر ایمان ہے۔ صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو انسان کے ہر لمحے اور ہر وقت میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔“ اس اندھیرے راستے پر چلتے ہوئے عجیبہ کو پروفیسر عباسی کی باتیں یاد آنے لگیں۔

”مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے بس مجھے ہر حال میں ثابت قدم رکھ۔ یہ مشکلات وقتی ہیں مگر تیرے ساتھ کسی بھی انسان کے لیے وقتی نہیں ہے۔“ وہ اب تین روڈ پر آ چکی تھی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نظر آرہی تھیں۔ اس نے ایک رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور قریب آنے پر اسپتال چلنے کا کہا۔

(آخری حصہ آئندہ ماہ ان شاء اللہ)

سے اٹھ کر اس کی جانب پلٹا پڑ نور چہرہ پڑ نور نکا ہیں اور لبوں پر پھیلی مانوس مسکراہٹ۔ وہ اس کے روبرو تھا۔

”عجیبہ..... اٹھو۔“ اماں نے اسے جھنجھوڑا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔

”یہ..... یہ کیا خواب تھا۔“ اس کا دماغ اب بھی خواب میں الجھا ہوا تھا۔

”عجیبہ! میں تم سے بات کر رہی ہوں تم مجھے سن بھی رہی ہو۔“ اس کی اماں نے ایک بار پھر اسے ہلایا۔

”کلک..... کیا ہوا اماں۔“ وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئی۔

”عالی اب تک گھر نہیں آئی ہے عجیبہ! میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔“ انہوں نے روتے ہوئے کہا اور عجیبہ کا دماغ گھومنے لگا۔

”یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں۔“ اس نے تیزی سے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی گیلری میں رکھے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے اس نے عالی کے سینئر کا نمبر ڈائل کیا کئی بار تکل جانے کے باوجود بھی کال ریسیور نہیں ہوئی تھی جس کا مطلب تھا کہ سینئر بند ہو چکا ہے۔ اس نے کال ڈس کنیکٹ کی اور پھر ایک ایک کر کے عالی کی دوستوں کو فون کیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ سینئر سے ساتھ نکلے تھے اور عالی گھر کی طرف ہی آ گئی تھی۔

”کسی کو بھی کچھ نہیں پتا اماں۔“ اس نے افسردگی سے فون کا ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔

”عجیبہ..... عجیبہ۔“ عباد صاحب کی آواز پر ان دونوں نے پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔

”اماں آپ بابا کے پاس جائیں میں اب کسی اسپتال میں جا کر چیک کرنی ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو۔“ عجیبہ نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ”آپ بابا کو کچھ نہ بتائیے گا۔“ اس نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور وہ میکانیکی انداز میں عباد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔

WWW



سو ساری

کلام

کتابخانه

پاکستان

READING
Section



کعبہ کی طرف ہو اب جو بھی سفر ہو
اس آرزو میں اب میرے شب و روز بسر ہوں
پیغام یہ دے دینا صبا تو جا کر حرم میں
بیٹھا ہے کوئی ظلمت میں، اس کی بھی سحر ہو

گزشتہ قسط کا خلاصہ

بھلا کہتی ہیں اور جان کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کرتی ہیں لیکن یہ اتفاق ہے کہ جان کا بہترین دوست حدیث ہے تقریباً چار سال بعد وائیل کو اپنی فطرتی احساس ہوتا ہے کہ اس نے جذبہ بائیت میں ایک غلط فیصلہ کیا تھا اسے اپنے ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وائیل ان سے معافی مانگنے گھر جاتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اب صاحب اور رقیہ بیگم ناملہ کو رخصت کرنے کے بعد اس جہان فانی میں نکلیں رہے۔ وائیل کچھ تادمے دل میں لیے لہن کی قبروں پر جاتا ہے۔

ان کا صاحب اور رقیہ بیگم کے بچے وائیل اور ناملہ اپنے والدین کی طرح دین دار ہیں۔ وائیل حافظ قرآن سے اب زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار رہا ہے لیکن اچانک ہی اسے ایک عیسائی لڑکی جینی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ جینی سے شادی کرنے کے لیے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک عیسائی لڑکی کا سن کر ابھار صاحب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے ابھار صاحب اسے جائیداد کا حصہ دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔

جان کا اب چرچ میں دل نہیں لگ رہا اسے لگ ہے کوئی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن وہ سے قاصر ہے لیکن پھر یونہی دل میں ہی غیر محسوس طریقے سے وہ ایک بار پھر اسلامی اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے اور وہاں جیمرہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جینی جان کو جیمرہ سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن ساتھ یہ بھی جانتی ہے کہ جان اب اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جیمرہ سے دور رہنا ممکن نہیں ہے۔ جینی جان کی شادی رینا سے کرنا چاہتی ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے۔

وائیل جینی کے گھر آ جاتا ہے اور اسے سازی حقیقت سے آگاہ کر کے شادی کے لیے کہتا ہے جینی اپنے والدین سے بات کرتی ہے اور پھر وائیل کو اپنے مذہب عیسائیت میں شامل کر کے ان سے شادی کر لیتی ہے۔ خاندان ہاس قرآن و سنتی کے پروفیسر ہیں اور جیمرہ ان کے شاگرد ہیں میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔

عہدہ صاحب کی دو بیٹیاں جیمرہ عہدہ اور عالیہ عہدہ ہیں۔ جیمرہ کی منگنی اپنے کزن احمد کے ساتھ ہو چکی ہے اور جلد ہی ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔

جیمرہ عہدہ ایک کلاس میں انٹرن شپ کے تحت پڑھا رہی ہے اور جان بہت خاموشی سے اس کی کلاس میں رہا ہے لیکن ایک جگہ جان عیسائیت اور اسلام دونوں کو اپنی ایک مذہب کہتا ہے جس پر جیمرہ عہدہ مسکرا کر اس کی ہر بات کا جواب دیتی ہے۔

حدیث، جان کا بہترین دوست ہونے کے ساتھ جیمرہ اور احمد کا کزن بھی ہے۔ جان نے جیمرہ کو پہلی بار اسلامک اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ میں دیکھا تھا جان کو مسلمانوں سے نفرت ہے اور یہ نفرت اس کے دل میں اپنی ماما جینی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ ہمیشہ جان کے سامنے مسلمانوں کو برا

دانیال کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ اس کے کان میں اذان دینے کے ساتھ بیٹے کا نام اذان رکھتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ جو گناہ اس نے مذہب سے گمراہ ہو کر اختیار کیا اور جس کی سزا برحق ہے اس میں کسی اس کا بچہ (اذان) دین کی بھاری کر کے اس سزا میں کمی کر دے۔ دانیال جینی سے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے جینی اس کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کرتی ہے۔

کے لیے مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ تین دن سے لا پتا غیرہ عہاد جب اپنے گھر کے دروازے پر جان کے ساتھ پہنچتی ہے تب احمد اس پر تہمت لگا کر اسے طلاق دے دیتا ہے۔ عہاد صاحب کو بیٹی کے اغوا ہونے اور اس کے طلاق یافتہ ہو جانے کے دکھ سے الٹک ہوتا ہے ڈاکٹر مشکل سے ان کی جان بچاتے ہیں۔

جان جینی کے ساتھ اپنی خانہ کے گھر ان سے ملتا تا ہے وہاں اسے محسوس ہوتا ہے جیسے غیرہ کسی بڑی مشکل میں ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ غیرہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اسے غیرہ کی کمی ہوئی ات یا آتی ہے "اگر انسان کو گلے کہ اس پر یا اس کے کسی اپنے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنی یا اس شخص کی طرف سے صدقہ کرنے سے وہ مشکل یا تو حل جائے گی یا کم ہو جائے گی۔" جان اب تین ہفتوں سے صدقہ دیتا ہے جو غیرہ نے اپنے پیچھے میں بتائے تھے۔

جان عہاد صاحب کی عیادت کو آتا ہے تب اس کی ملاقات پروفیسر خالد عہاس سے ہوتی ہے۔ جان کو پروفیسر خالد عہاس کی باتیں اس وقت سمجھ نہیں آتیں اور وہ غیرہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔

پانچ سال بعد کاشان فریدی پاکستان لوٹا ہے یہاں سے جب وہ پانچ سال پہلے گیا تھا تو اس کا ارادہ ہوس آنے کا نہیں تھا مگر اب وہ بنا ارادہ ہی واپس آیا ہے اس کا استقبال اذان سمیت تمام مشافہ کرتے ہیں۔ کاشان فریدی کا ارادہ اذان کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کا ہے۔

غیرہ کو سنیعیانا نامی ایک ہندو لڑکی کے اغوا کے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے جان کو یہ خبر اس کا دست عدیل دیتا ہے جس سے جان پریشان ہو کر اس کی ضمانت کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ماما (جینی) سے کہتا ہے جینی کچھ سوچ کر اس کے سامنے اپنی بھانجی اور جان کی کزن رینا کی شادی کا پرنزل رکھ کر غیرہ کو ضمانت پر دم کرنے کی شرط رکھتی ہیں۔

غیرہ عہاد بہت خوب صورت خواب دیکھ رہی ہوتی ہے جب ہی اس کی اماں اسے چھوڑ کر اٹھتی ہیں۔ اور اسے عالیہ کا بناتی ہیں جو ابھی تک اپنے سینٹر سے واپس نہیں آئی ہے غیرہ پریشان ہو کر پہلے عالیہ کو فون کرتی ہے لیکن مسلسل ٹیکل جانے پر بھی وہ کال ریسیو نہیں کرتی جس پر غیرہ مزید پریشان ہو کر عالیہ کی تلاش میں گھر سے نکل جاتی ہے۔

لاب آگے پڑھیں



جان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا وہ شرط مان لیتا ہے ضمانت سے کچھ دن بعد غیرہ عہاد کا نکاح اپنے کزن احمد سے ہو جاتا ہے دوسری طرف جان کی مگنٹی رینا سے ہو جاتی ہے۔

دو مہینے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے غیرہ کو گلے وہ پریشانی کی حالت میں محسن میں ٹھہر رہی تھیں۔ ایک مہینہ روزہ بجا کر وہ کئی کی رفتار سے دروازے کی طرف پہنچی تھیں۔

غیرہ عہاد پر مسٹر مہرا یہ التزام رکھتے ہیں کہ غیرہ نے ان کی بیٹی سنیچ کو بہکا کر اسلام قبول کرنے پر اسکا کیا ہے اس لیے پہلے مسٹر مہرا نے غیرہ کو گرفتار کر لیا اس کے بعد اپنے چچا اور ماما کے ہاتھوں اسے اغوا کر لیتے ہیں۔ اس بات کی خبر جب جان کو ہوتی ہے تو وہ وہاں سے بھی غیرہ کو آزاد کرانا ہے۔ جان اب غیرہ سے محبت کرنے لگا ہے اور اس

"آگے نہیں غیرہ... عالی کو....." انہوں نے دروازہ کھولنے ہوئے کہا مگر ان کی بات لاہوری ہی رہ گئی تھی کیونکہ دروازے پر غیرہ نہیں بلکہ عدیل کھڑا تھا۔

"اسلام علیکم آئی۔" اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دیکھا عدیل کے ساتھ بھی کوئی کھڑا تھا مگر کلی میں اندھیرا ہونے کے سبب وہ اسے دیکھ نہیں پاتیں۔



”وعلیٰ السلام! انہوں نے اب عدیل کی اٹھا تھا۔

طرف دیکھا۔

”آئی! میرا دست جان ہے۔ اسی نے غیرہ کو جیل سے رہائی دلائی تھی اور اسپتال میں بھی غیرہ کی مدد کی۔“

عدیل بولا: جان چند قدم آگے بڑھ کر روشنی میں آکھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک اسے بغور دیکھا بلکہ

چیز بلکہ شرٹ بلکہ ہی جیکٹ صاف رنگت۔

”پیلو آئی! عباد انکل کیسے ہیں؟“ وہ جواب دینے کے بجائے غیر یقینی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان

دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا پھر عدیل ان سے مخاطب ہوا۔

”آئی! جان آپ سے عباد انکل کی طبیعت پوچھ رہا ہے۔“

”ہاں..... ہاں..... وہ ٹھیک ہیں۔“ ان کا لہجہ

کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر غیر یقینی نگاہوں سے جان کو دیکھا۔

”انڈر جاڈ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔“ وہ دروازے سے

بچتے ہوئے بولیں۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے جان نے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا گھر بہت سادہ طرز پر بنا ہوا

تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک گمرہ تھا جس کے اٹھ کھلے دروازے سے عباد صاحب چارپائی پر

نیچے نظر آ رہے تھے۔ مگر اس ایک خاور زرخیز کے نیچے تخت بچھا تھا مگر اس کے انتہام پر ایک لکڑی کی گیلری کی بنی

تھی جس میں بائیں طرف مگر تھا جس کے باہر ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔

”آئی! غیرہ گھر آئی تھی مجھ سے ملنے سب خیریت تو ہے؟“

”ہاں! ہاں! تارہی ہیں۔“ عدیل نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔

”نہیں، بیٹا! بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے عالی شام کو نوٹیشن گئی مگر اب تک گھر واپس نہیں آئی اس کی ہر دوست سے

پوچھ لیا مگر کسی کو کچھ پتا نہیں۔“ انہوں نے بہت پریشان مگر

”جان! یہ آپ کی ذہنی نہیں ہے کہ ہر براہم میں آپ ہر بہت برا ہوا۔“ اب عدیل بھی پریشان ہو

”میرے خیال میں پولیس کو انفارم کرنا بہتر ہوگا۔ آئی آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنی بیٹی کی تصویریں اور نام بتادیں

میں پولیس کو انفارم کروں گا۔“ جان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور مڑا۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔

”تم کراچی سے کب واپس آئے؟“ ان کے جانے کے بعد عدیل جان سے مخاطب ہوا۔

”جس وقت تمہارا فون آیا میں اس وقت گھر کے باہر ہی پہنچا تھا اٹھائے قدموں واپس آ گیا۔“ جان نے بہت ناراض انداز میں کہا۔

”بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایک گئے بعد ایک پریشانی آ رہی ہیں ان لوگوں پر۔“ عدیل نے متاسف لہجے میں کہا

اور جان نے صرف اثبات میں سر ہلایا۔ اسی وقت دروازہ پر دستک ہوئی عدیل اور جان نے ایک دوسرے کی جانب

دیکھا پھر عدیل کچھ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولنے پر غیرہ کھڑی تھی اس نے حیرت سے

ان دونوں کو دیکھا۔

”آپ لوگ اس وقت یہاں؟“ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تب تک اس کی اماں بھی آگئی تھیں۔

”غیرہ عالی کا کچھ پتا چلا۔“ غیرہ پر لگے پڑتے ہی انہوں نے بے تاب لہجے میں پوچھا۔ غیرہ نے ٹیٹیس سر ہلایا اور ان کا دل ڈوبنے لگا۔

”آئی! آپ پریشان نہ ہوں یہ تصویر مجھے دیں! میں پولیس میں کس فائل بنا دیتا ہوں یقیناً بہت جلد آپ کی بیٹی کا پتا چل جائے گا۔“ جان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے ہنسی بخش لہجے میں کہا۔

”میری بیٹی کا نام عالیانہ عباد ہے اور یہ ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے۔“ انہوں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی اس کی طرف بڑھایا۔


”جان! یہ آپ کی ذہنی نہیں ہے کہ ہر براہم میں آپ ہر بہت برا ہوا۔“ اب عدیل بھی پریشان ہو



لجے میں کہا جان کو اس کا پیو یہ کچھ نہیں آیا یا چائیک اسے گیا ہو گیا تھا۔

”مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے مگر شاید آپ اپنی اپنی کوئی ہوتی بات بھول گئیں کہ یہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ذی الحال میرے لیے یہی لکھا ہے کہ میں ہر پرانہ میں آپ کی مدد کروں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کس بیمرہ؟“ جان۔ نے اس کے انداز میں ہی کہا اور بیمرہ لا جواب ہو کر رہ گئی۔

”چلو عدیل!“ اس نے بیمرہ کی جانب دیکھتے ہوئے عدیل سے کہا اور روزے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب کہ بیمرہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔



”پانچ بیج کرئیں منٹ۔“ احرام نے کہا اور طوبی نے ایک بار پھر روزے کی طرف دیکھا۔

”پتا نہیں اذان کہاں رہ گئے۔“ طوبی نے پریشان کن لہجے میں کہا۔

”پانچ بیج کرئیں منٹ۔“ احرام ایک بار پھر بولا۔ طوبی نے گھبرا کر اسے دیکھا۔

”اگر اب تم نے کچھ بولا تو.....“ طوبی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔

”اوکے..... اوکے۔ سوری بھی لیکن اب ہم صرف دس منٹ اور انتظار کریں گے تمہیں پتا ہے ناں آج سما باا

آ رہے ہیں انکل آئی سے ملنے تاکہ شادی کی تاریخ طے کر دیں اور اب کی بار کچھ نہیں کرنا طوبی روزہ میں تاضی سے کہوں گا زبردستی نواح پر حادے۔“ احرام نے ایک ہی

سانس میں کہا اور طوبی ہنس دی۔

”ہاں تو پھر حوالہ لیتا نکاح! اتنی لڑکیاں ہوں گی شادی میں۔“ طوبی نے اسی کے انداز میں کہا۔

”طوبی.....!“ اس نے مصنوعی حقل سے کہا اور پھر وہ اب ایک ساتھ ہنس رہے۔ وہ دونوں اس وقت ایک جگہ بیٹھے تھے اذان طوبی سے ملنا چاہتا تھا۔

”میں کال کرتی ہوں اسے“ طوبی نے ٹھٹک آ کر کہا۔ ”ہیلو اذان! میں اور احرام آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں آپ کہاں رہ گئے؟“ اس کے کال ریسیو کرتے ہی طوبی نے کہا۔

”اوہ..... میں تو بھول ہی گیا تھا۔ وراہل میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوا تھا اس پریشانی میں میں آپ دونوں کو انعام کرنا بھول گیا آئی امہ سواری۔“ اذان نے تفصیل بتایا۔

”اوہ یہ تو بہت فسوس کی بات ہے۔ ویسے اب طبیعت کیسی ہے ان کی۔“ طوبی نے فسوس کرتے ہوئے پوچھا۔

”اب بہت بہتر ہیں اب تو ہم گھر بھی آ گئے ہیں۔“ اذان نے نہر سکون لہجے میں کہا۔

”ویسے میں اور احرام آپ کے گھر آ جائیں تو آپ ہائٹ تو نہیں کریں گے؟“ طوبی نے نہر سوچ لہجے میں پوچھا۔

”ہائٹ بھی نہیں بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھ سے زیادہ خوشی تو میری والدہ کو ہوئی۔ آپ ان کی خوشی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتیں طوبی!“ اذان کا لہجہ کچھ

ذومعنی تھا۔ طوبی چونکی۔

”کیا مطلب؟“ ان نے کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں کہا۔

”مطلب آپ کو خود سمجھا جائے گا۔ آپ احرام کو فون دیں میں اسے ایڈیس سمجھاتا ہوں۔“ اذان نے اسے مزید الجھا دیا مگر اس نے مزید کچھ پوچھنے کے بجائے

احرام کی طرف فون بڑھا دیا۔



”بیمرہ تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے جلدی چلو۔ وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔“ وہ نماز پڑھ کر ٹیٹھی ہی

تھی اور روزہ شریف کی تسبیح پڑھ رہی تھی آج جمعہ تھا وہ فوراً ہی آئی اور بہت تیزی سے ان کے کمرے کی طرف

بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا عباد صاحب کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا وہ جلدی سے ان

کی چار پائی پرائیویٹی اور ان کا ہاتھ تھا ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا۔ چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔

”بابا! ہم اسی اسپتال چلتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔“ اس نے کانپتے لہجے میں کہا اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ٹہنی میں سر ہلا دیا۔

”..... اب نہیں..... جیرہ! اب یہ کوشش مت کرو زندگی کے لیے ایک ہار جدوجہد کی جاتی ہے بار بار نہیں۔“ انہوں نے لڑکھرائی زبان سے کہا۔ ”میرا وقت پورا ہو گیا ہے مجھے، اب اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔“ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پارہے تھے۔ ان کی اس حالت پر جیرہ کی اماں نے آہ و بکا شروع کر دی تھی خود جیرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ صبح تک تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا انہیں۔ جیرہ کو کچھ نہیں رہا تھا۔

”میری آخری خواہش ہے جیرہ..... میں تمہاری آواز میں سوز و غم سننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دم اپنے رب کی شکل گزرا کر کرتے ہوئے نکلے۔“ انہوں نے اب انک انک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ جیرہ نے ان کا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا مگر آج اس کی آواز لڑکھرائی تھی۔ عباد صاحب کی آنکھیں اس پر تھی جی نہیں جیسے جیسے جیرہ تلاوت کر رہی تھی ان کے چہرے پر سکون پھیلتا جا رہا تھا ان کی آنکھیں دھیمے دھیمے پھرانے لگی تھیں اور جیرہ کے تلاوت ختم کرتے ہی بالکل بے جان ہو گئی تھیں۔ جیرہ کو پہلی بھر کے لیے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن ختم ہو گئی اور اس کی اس کی آہ و بکا میں اضافہ ہو گیا۔ جیرہ نے کانپتے اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی اور دعا پڑھی۔ اس کے حواس اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے اور مردہ کی ہر شے دھندلانے لگی تھی۔ اس نے کوشش نہ حواس بہانہ رکھنے کی گمراہ کامیاب نہ ہو پائی اور چکرا کر زمین پر آ گری۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔



اس نے تیسری بار جیرہ کا لیفٹ انٹرن نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ لمبے دو بار کسی نے کال اٹینڈ کی نہیں تھی اب کی بار دو تین بیٹرز میں ہی کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔

”ہیلو جیرہ!“ وہ فوراً بولا۔

”آپ کون؟“ دوسری طرف سے کسی بچی نے کہا۔

”جیرہ سے بات کرنا دیں۔“ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔

”جیرہ باجی بہت دیر سے بے ہوش ہیں عباد بالکل کا انتقال ہو گیا ہے۔“ اس بچی نے جواب دیا۔

”کیا..... یہ..... یہ..... کیا ہوا؟“ وہ شاک کے سبب بول نہیں پارہا تھا۔

”آج دوپہر ظہر کے بعد۔“ اس بچی نے اب بھی ویسے ہی جواب دیا اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر غیر متعینی حالت میں کھڑا ہو گیا۔

”یہ کیسے ممکن ہے وہ کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھے پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا انہیں۔“ جان خود کلائی کرنے لگا۔

”جان چلیں۔“ اس کی ممانے کار پوریج میں داخل ہوتے ہوئے کہا وہ اس وقت ان کے ساتھ کرسمس کی شاپنگ کے لیے جا رہا تھا۔ ”رینا اور اس کی ماما بھی آ رہی ہیں شاپنگ کے بعد تم اور رینا ڈنر پر جے جانا اور میں اور جلیئر گھرا جاؤں گے۔“ انہوں نے اسے مطلع کیا۔ وہ اپنی جگہ اب بھی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔

”کیا ہوا جان!“ انہوں نے پوچھ کر اس کی جانب دیکھا۔

”ماما! جیرہ کے فادر کی ڈیڈھ ہو گئی ہے۔“ اس نے بہت فسوس کیا۔

”تو پھر.....“ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے وہ کوئی تمہارے رشتہ دار نہیں تھے اور نہ ہی وہ لڑکی تمہاری رشتے دار ہے۔“ انہوں نے بہت بے پروا لہجے میں کہا۔

”ماما! ایک انسان کی زندگی ختم ہو گئی اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بادل ہات ہے۔“ جان حیرت و غم سے منہ حال



READING Section

پرفاتحہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی جب کہ جان کا ذہن عیبرہ
میں اٹکا ہوا تھا۔

”جان! بچہ مت، بخود دنیا میں روز ہزاروں لوگ مرتے
ہیں وہ کوئی خاص نہیں۔“ ان کے لہجے میں سفاکی تھی۔

”وہ عیبرہ کے فادر تھے“ جان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔
”اور عیبرہ بھی خاص نہیں ہے ہمارے لیے۔“ ان کا

انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔
”لیکن میرے لیے ہے۔“ جان اب بھی اپنی بات پر

ڈٹا رہا۔
”کیوں بے وقوف۔ بن رہے ہو جان! کیوں نہیں دیکھ

سکے جان تم وہ لڑکی تمہیں صرف استعمال کر رہی ہے اپنے
کام نکلوا رہی ہے اور اس کے بعد وہ تمہیں دودھ میں سے

کبھی کی طرح نکال پیسکے گی۔“ انہوں نے بہت تیز لہجے
اور بلند آواز میں کہا۔

”آپ سے ہزار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ عیبرہ کو غلط
سمجھتی ہیں وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی

آپ یہ بات؟“ جان کی آواز ان سے کبھی زیادہ بلند بھی وہ
شہنا نہیں۔

”میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جان کہ کبھی تم مجھ سے اس
طرح بات کر دو گے۔ میں تمہاری ماں ہوں شاید تم آج یہ

بات بھی بھول گئے ہو اس لڑکی کے باپ کی موت کا اتنا تم
ہے اور اپنی ماں تمہیں نظر نہیں آتی۔“ انہوں نے رو دینے

والے انداز میں کہا۔
”کبھی نہیں جا رہی میں تمہارے ساتھ جاؤ تم اس لڑکی

کے باپ کا تم مناسے تو ہاں جانا تمہارے لیے زیادہ ضروری
ہوگا جاؤ تم.....“ وہ جانے لگی تھی مگر جان نے ان کے

دونوں ہاتھ تھام کر انہیں روک لیا۔
”پلیز مام! ایسے مت کہیں آپ میرے لیے اس دنیا

میں سب سے ضروری ہیں.....“ پہلے آپ ہیں اس کے
بعد کوئی اور۔“ وہ زبردستی ان کے گلے لگ گیا۔

”ہم چل رہے ہیں کرکس شاپنگ کے لیے اور میں
اپنے بچے کو بھی لے کر جاؤں گا لیکن آج سہ ماہی آپ ایسا کبھی

نہیں لے سکتی گی کہ آپ میرے لیے اہم نہیں۔“ ان کے لبوں

وہ بہت دیر سے ان کی گود میں سر رکھا کبھی نہیں بند کیے
لیٹی تھی وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔

”بابا جانی! جب آپ ستنے پیار سے میرے سر پر ہاتھ
پھیرتے ہیں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔“ وہ آنکھیں بند

کیے ہی ان سے مخاطب تھی۔
”عیبرہ! آپ میری سب سے پیاری بیٹی ہیں۔“ ان کا

لہجہ محبت و شفقت سے پُر تھا۔ ”اور آپ سب سے زیادہ
بہادر بھی ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کبھی بھی ہار ماننے والوں

میں سے نہیں ہیں آپ ہر حال میں زندگی گزار سکتی ہیں۔“
وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔

”تھریلیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کبھی خوش
گوار اور کبھی ناخوش گوار۔ مگر بہادر وہی کہلاتا ہے جو ناخوش

گوار تھریلی کو خوش دلی سے قبول کر لے اپنے رب کی رضا
میں راضی ہو جائے اور خود ختم ہو جائے ہیں وقت کے ساتھ

مگر رشتے اور رشتوں میں چھپی جھکتیں ہمیشہ زندہ رہتی
ہیں۔ جیسی آپ کی محبت میرے لیے اور میری محبت آپ

کے لیے لیکن اب اگر فرق آئے گا تو صرف اتنا کہ آپ کو
زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور مجھے اس زندگی کو الوداع کہنا

ہے۔“ انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ عیبرہ کی بند
آنکھوں سے پانی بہت تیزی سے بہنے لگا۔

”بابا جانی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں
ہمیشہ.....“ اس نے نم لہجے میں کہا۔

”ہمیشہ کا ساتھ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتا ایک دن
زندگی کا سفر ختم ہونا ہے اور یہاں ہے۔“ اسے کوئی نہیں بدلی

سکتا اور آپ تو میری سب سے بہادر بیٹی ہیں ماں! آپ
نے تو ہر حال میں اپنے رب سے صبر کی توفیق مانگی ہے

ہمیشہ تو پھر آج صبر کا دامن کیوں چھوڑ رہی ہیں۔ کیوں
اپنے رب کی رضا کو نظر انداز کر رہی ہیں اٹھیے اور یہ ثابت

کر دیجیے کہ آپ اپنے پاک رب کے صابر بندوں میں

”اوہ مجھے پتا نہیں تھا۔“ رینا شرمندہ ہوئی۔ وزیر کھانا لے آیا کھانا سرو ہوتے ہی جان نے بہت تیزی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔

”گستاخ ہے آپ کو بہت جلدی ہے جان!“ رینا کو اس کا یہ انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔

”ہوں..... ہاں! وہ دراصل میرے ایک بہت کلوز فرینڈ کے فادر کی ڈیوٹی ہے اور مجھے وہاں جانا ہے۔“ اس نے اسی طرح کھاتے ہوئے کہا۔

”اوہ! آئی سی اس کا مطلب آپ یہاں زبردستی آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں۔“ رینا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جان کے تیزی سے چہنچہنے ہوئے ہاتھ رک گئے مگر اس نے پھر کھاتے ہوئے کہا۔

”تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟“ جان نے بے پروائی سے کہا۔

”آپ کچھ زیادہ جلدی میں ہیں؟“ رینا نے چہنچہتے ہوئے لہجے میں کہا۔

”ہاں میں ہوں لیکن اگر آپ کو پریشانی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہ رشتا ختم کرنا چاہیں۔“ جان کے لہجے میں اب بھی بے پروائی تھی۔

”اس کا مطلب تو بنتا ہے کہ ہمارا رشتا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔“ رینا نے پلیٹ میں چمچے گھماتے ہوئے کہا۔

”میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میری ممانجی اور آپ ان کی پسند ہیں۔“ جان اپنی پلیٹ ختم کر چکا تھا۔ مینوکا رڈ میں پیسے رکھتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔

”تو آپ کی پسند کون ہے؟“ رینا کا اماناز اب بھی وہی تھا جان نے جواب دینے کے بجائے کہا۔

”میں باہر ہوں اپنی پلیٹ ختم کر کے جاؤ۔“

”نہیں مجھے اور بھوک نہیں ہے۔“ رینا نے اپنی جگہ سناختے ہوئے کہا۔

”جیسے تمہاری مرضی۔“ جان نے بہت روکھے لہجے میں کہا اور پلیٹ کر ہوٹل کے گیت کی طرف قدم

سے ہیں۔ آپ اس کی رضا میں راضی ہیں۔ اٹھیے مجیرہ اٹھیے... مجھے آخری بار الوداع تو کہہ دیجیے۔“ ان کا لہجہ ڈوب گیا تھا اس نے دیکھیے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پر پڑی تھی بابا جانی کہیں بھی نہیں تھے۔ باہر محسن سے اسے بے تحاشا رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ان میں ایک واضح آواز اس کی اماں کی تھی۔

”مت لے کے جاؤ انہیں ابھی تو عالی بھی نہیں آئی۔ میری مجیرہ کو بھی تو بلاؤ وہ بھی تو آخری بار اپنے بابا کو دیکھ لے۔ ارے کوئی تو سن لے میری ہائے اللہ! یہ کیا کر دیا تو نے..... یہ کیا کر دیا۔“ مجیرہ کا ذہن اب بھی مکمل طور پر بندس جا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر اپنے بابا کے آخری جملے گونجے تھے۔

”اٹھیے مجیرہ اٹھیے... مجھے آخری بار الوداع تو کہہ دیجیے۔“ ان جملوں نے اسے جھنجھور دیا تھا۔ وہ بہت پھرتی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر گیلری میں پہنچتی ہی اس کے قدم ٹھم گئے جنازہ گھر سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹیں جھپکیں اور آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔

”الوداع بابا جانی... الوداع..... اگر میں نے کبھی آپ کو تزیف دی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ الوداع... الوداع.....“ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر چٹختی چلی گئی اس کا دل گواہ تھا کہ وہ اب اپنے بابا جانی کو بھی نہیں دیکھ پائے گی اور شان کی آواز تین دن پائے گی۔




”یہ بس جان! آپ کا کرسک کا گفٹ۔“ رینا نے ایک سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے ایک معروف ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ جان نے ایک نظر اس سیٹ کو پھر رینا کو دیکھا۔

”سہری! میں گفٹس لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے کسی کی بھی مائی ہوئی چیزیں پسند نہیں آتیں۔ اس لیے میں گفٹس قبول ہی نہیں کرتا۔“ جان نے بے حد بے زار لہجے میں کہا۔

READING Section

میں انہوں نے دہو سے دیا اور میں..... "عمرہ کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔



"وہ میرا عمرہ نہیں مت۔ آپ ہی کہتی ہیں ناں انسان کو ہر جا میں مہر کرنا چاہیے پھر آج آپ اپنی بات سے کیسے پھر رہی ہیں۔ آپ تو بہت بہادر ہیں عمرہ۔" جان کو خرد پلٹا آواز بھی رنڈھی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔

"ہاں مجھے یاد ہے لیکن میں نے کبھی بھی بابا جانی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا تھا شاید اسی لیے بہت کوشش کے باوجود بھی میں آسوسہٹ نہیں کر پار رہی۔" عمرہ کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔

"عمرہ! زندگی میں مہر کرنے کا سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں آپ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں عمرہ! جس نے بابا کی شفقت و محبت لاڈ لیا رخصت سے کچھ دیکھا ہے لیکن مجھے دیکھو میں اپنے بابا کے نام کے سوال کے بارے میں مکمل طور پر کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ میں نے تو آج تک ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تو ان کی محبت اور شفقت تو بہت دور کی بات ہے میرے لیے لیکن مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور نہ لگے کیونکہ میں یہی سوچتا ہوں کہ شاید یہی بہتر تھا اسی لیے ایسا ہوا۔" جان نے اس کی دل جوئی کی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ اس کے ان جملوں نے عمرہ کی ہمت بڑھا دی تھی۔

"آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جان! شکر یہ مجھے اتنا اچھا سبق پڑھانے کے لیے۔" عمرہ کچھ حد تک ناراض ہوئی۔ "عالی کا کچھ پتا چلا جان! وہ تو بابا جانی کو آخری بار دیکھ گیا نہیں سکی۔" عمرہ نے ایک گہری سانس لی۔

"چولیس اپنی کوشش کر رہی ہے میری مسز مہرا سے بھی بات ہوئی تھی مگر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عالیانہ کو انخواہ کرانے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ کو دھمکا کر ایمان کا پتا پوچھ سکیں مگر وہ ان کی قید میں آنے سے پہلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔" جان نے تفصیلی طور پر جواب دیا۔

"وہ تھوٹ بول رہے ہیں جان! اگر وہ فرار ہونے

"مسلمانوں کو کس طرح کی مشکل پیش آئے تو میرا نماز سے مدد لو بے شک اللہ مہر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ مسجد سے فجر کی آذان کی آواز آ رہی تھی وہ اپنی اماں نے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ تمام بات آنکھوں میں ہی لٹ گئی تھی محلے کی عورتیں جنازے کے فوراً بعد ہی چلی گئی تھیں جب کہ خاندان کی کچھ عورتیں رکی تھیں مگر ان کے نیور بھی کچھ خاص ٹھیکہ نہیں تھے وہ سرگوشیوں میں عبادتِ صاحب کی موت کا زبرد دار عمرہ کو گھبرا رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور غمو کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی فجر کی نماز پڑھ کر وہ حرم میں بچے تخت پر بیٹھی اس کے بابا جانی روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتی تھی مگر آج وہ یہاں کیلی بیٹھی تھی۔ عمرہ کا دل ڈوبنے لگا اور آسوسہٹ نے لگے اس نے پلٹیں مضبوطی سے بند کر کے آسوسہٹ کو ضبط کیا اور وہ کامیاب رہی تھی۔ کالی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی اور اپنے بابا کی باتوں کو یاد کرتی رہی تھی ان کی نقل اسے سوچ کے حصر اسے باہر لے آئی۔ وہ اٹھ کر فنون کی طرف بڑھی۔

"پوری رات ہو گئی ہے اس فنون کو بجھے اٹھانے پر کوئی بولتا ہی نہیں۔" اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی تھی۔

"اسلام ٹیکم! عمرہ نے رات بھر اٹھانے ہوئے کہا۔" "عمرہ..... خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا۔" دوسری جانب جان تھا۔

"جان! عمرہ نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا۔" "نہیں جان! آپ ٹھیک تو ہیں نا۔ مجھے پتا چلا تھا عبادت انکل کا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ایک رات پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے پھر....." جان اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا۔

"پتا ہی نہیں چلا آئیوں کیا ہوا۔" وہ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے میں نے صبح ان سے بات بھی کی تھی پھر اچانک وہ پھر اس دن کی طبیعت خراب ہو گئی اور صرف چند لمحوں میں میری آنکھوں کے سامنے..... میرے ہاتھوں



بچھے ہوئی اور وہیں سے عدیل سے ہات کی اور لڑنے۔
ہاتھوں سے دروازہ بند کیا۔ اسے اپنے پودے وجود سے
پہننے چھوٹے محسوس ہوئے۔

”کیا ہو رہا ہے یہ مجھے؟“ اس کے ذہن میں جان کر
آواز گردش کر رہی تھی۔

”غیرہ کیوں سوچ رہی ہو تم اس کی باتوں کو وہ پاگل ہے
بالکل پاگل۔“ غیرہ کا شخص اور ہی تھی اپنی اس حالت سے۔
”وہ ایک نون مسلم ہے غیرہ تم بھول گئیں اس کا دھوکا
اسلام کو جاننے اپنانے کی خواہش نہیں رکھتا وہ شخص اور تم
سے اسلام کے بہانے ملتا رہا۔ وہ شخص اللہ سے محبت تو
ورکنہ اسے جانتا بھی نہیں۔ ایسے شخص کی کوئی بھی بات
تمہیں اس کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ ہرگز نہیں۔“ اس
نے اپنے دل کو مطمئن کیا اور اس لمحے وہ جان کے ہر
احسان کو فراموش کر گئی تھی۔

کار بہت تیزی سے کراچی پہنچی وہیں پر دوڑ رہی تھی۔
اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا پونے چھ بج رہے تھے اس
نے گردن گھما کر ایک بار پھر غیرہ کی جانب دیکھا وہ اب
بیک پھر کے گت کی طرح بیٹھی تھی۔

”غیرہ خیر پر اہم کیا ہے؟ کچھ تو بولیں آپ اپنی والدہ
کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں اور کیوں؟“
جان نے بہت الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پچھلے ایک گھنٹے
میں وہ یہ سوال کئی بار پوچھا تھا مگر غیرہ نے کوئی جواب
نہیں دیا تھا۔ ایک گھنٹے پہلے اس نے غیرہ کو گھر سے سفری
بیک اٹھائے باہر نکلنے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر غیرہ اس کی
جانب آگئی تھی اور اسے کراچی بس اسٹاپ ڈراپ کرنے کا
کہا تھا مگر اس نے بس اسٹاپ ڈراپ کرنے کے بجائے
خود سے کراچی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

”اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔“ بہت دیر بعد
غیرہ بولی۔

”کیا..... لیکن کیوں؟“ جان سمجھ نہیں پایا تھا۔
”وہ مجھے ہمیشہ کے لیے کھنکھ نہیں چاہتیں جس طرح

میں کامیاب ہوئی تھی تو کیا گھر نہ پہنچ گئی ہوتی۔“ غیرہ
ترپ کر بولی۔

”نہیں غیرہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں
کیونکہ اگر عالی شانان کے پاس ہوتی تو اب تک آپ کے
پاس وہ کئی آمیز فون کال آچکا ہوتا۔“ جان نے وضاحت
پیش کی۔

”تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟“ غیرہ کے لہجے میں پریشانی
کا عنصر نمایاں تھا۔

”بس آپ دعا کریں کہ وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہاتھوں
میں ہو اور جلد مل جائے۔“ جان نے نسلی بخش لہجے میں کہا۔
”اے اللہ! اللہ ایسا ہی ہوگا۔“ غیرہ نے پُر عزم لہجے میں
کہا ابھی دروازہ بجا۔

”دروازہ بج رہا ہے شاید دودھ والا ہوگا اسے تو پتا بھی
نہیں ہے بابا کے بارے میں۔“ غیرہ نے پراسوس لہجے
میں کہا۔

”فادہ والا نہیں ہے عدیل ہے۔“ ناشتے کا پوچھنے آیا
ہے۔“ جان نے اسے مطلع کیا۔

”آپ کو کیسے پتا؟“ غیرہ چونکی۔
”میں پچھلی رات سے آپ کے گھر کے سامنے کھڑا
ہوں۔“ جان کا لہجہ متعجب تھا۔

”کیوں؟“ غیرہ کی حیرت مزید بڑھی۔
”آپ پریشان ہوں تو میں کیسے آرام سے رہ سکتا
ہوں۔“ جان کا لہجہ اب بھی متعجب تھا۔

”ہاں.....!“ غیرہ کو اپنی آواز کسی کھائی ستاتی ہوئی
محسوس ہوئی مگر اب وہ خاموش رہا۔ غیرہ کو جنوبلا ہٹ محسوس
ہوئی اس نے تیزی سے رہسیدر کھدیا۔

”یہ پاگل ہے بالکل پاگل۔“ غیرہ بڑبڑاتی ہوئی
دوازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر واقعی عدیل
دوازے پر کھڑا تھا۔ عدیل سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہیں
کچھ قافیے پر کھڑی جان کی کار پر گئی تھیں۔ وہ ڈرائیونگ
سیٹ پر بیٹھا اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا اس پر نظر پڑتے
ہی غیرہ کا پورا وجود کانپ گیا۔ وہ جلدی سے دوازے کے

READING
Section

انہوں نے بابا جان اور عالی کو کھو دیا ہے۔" عبیرہ کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔

"آئی کا یہ سوچنا غلط تو نہیں عبیرہ! آپ کا کوئی بھی خیر خواہ یہی چاہے گا۔" جان نے بہت جذب سے کہا۔ عبیرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔

"وہ میرا اچھا سوچ سکتی ہیں لیکن کیا ان کا اچھا سوچنا میرا حق اور فرائض نہیں ہے۔" عبیرہ نے تیز لہجے میں کہا۔

"آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں عبیرہ! لیکن اس وقت سوال آپ کی زندگی کا ہے۔ آئی محفوظ ہیں۔" جان نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔

"جس انسان نے میری بہن کو نہیں چھوڑا وہ میری اماں کو کیونکر چھوڑے گا۔ یہ کیسی کم عقلی کی باتیں کر رہے ہیں آپ جان۔" عبیرہ نے چڑ کر کہا۔

"اگر میں کم عقل لگ رہا ہوں اور کم عقلی کی باتیں کر رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سنیا کو مسلمان کر کے کون سا عمل کا کام کیا؟ کیا مل گیا آپ کو اسے مسلمان کر کے؟ میری نظر میں تو آپ صرف خسارے میں ہی ہیں۔" جان نے پہلی بار اسے طنز کا نشانہ بنایا تھا۔

"نیا آپ بھی سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے کیا پایا کیونکہ آپ اللہ کی محبت کو نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی حقیقی جستجو نہیں ہے آپ صرف مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔" عبیرہ کا ٹیپہر ایک دم لوز ہو گیا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی گئی اور کہاں جا رہی تھی۔ جان کو غصہ آنے لگا اس نے غصہ ضبط کرنے کے لیے اسٹیرنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور کار کی رفتار بڑھا دی مگر عبیرہ کو کچھ نہیں کہا دونوں طرف اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔

"آئی ایم سوری شاید میں ٹینشن میں ضرورت سے زیادہ بول گئی تھی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔" عبیرہ نے بہت شرمندہ لہجے میں کہا۔ جان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔

"کتنا بہتر یہ طریقہ ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا۔" جان نے کہا۔

"جہاں سے زیادہ بول گئی تھی۔" عبیرہ نے کہا۔ جان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔

"جی۔" عبیرہ نے ایک لفظ جواب دیا۔

"عبیرہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟" کچھ دیر بعد جان پھر مخاطب ہوا۔ وہ اس وقت آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے۔

"میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں عبیرہ! بظاہر آپ کے لیے ہونے والے عمل کا کوئی پھل دکھائی نہیں دے رہا اور شاید اسی لیے خود آپ بھی ایک لمحے کا شکر ہیں کہ سنیا کو مسلمان کرنے کا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں۔" جان کا لہجہ بہت شگفتہ تھا۔

"سنیا کو مسلمان کرنے کا فیصلہ میرا نہیں بلکہ میرے رب کا تھا۔ اس نے چاہا اس نے کیا میں صرف ذریعہ بنی اور سنیا نے بھی یہ قدم اپنی خواہش سے یا کسی انسان کے لیے نہیں اٹھایا بلکہ اپنے رب کے حکم سے اٹھایا۔" عبیرہ نے بہت جامع انداز میں کہا۔

"میں نہیں مانتا کوئی انسان بنا خواہش بنا چاہت کے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بغیر وجہ کے اپنا دین کیسے چھوڑ سکتا ہے۔" جان نے نفی کی۔

"دین وجوہات نہیں سمجھ اور پرکھ کی بنا پر تبدیل کیا جاتا ہے۔" اسے جان کی سمجھ پر شک ہونے لگا۔

"کیا فرق پڑتا ہے بات ایک ہی ہے۔" جان نے سنجیدگی سے کہا اور عبیرہ خاموش ہو گئی۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔

"اؤکے آپ کی ٹینشن دور کرنے کا ایک راستہ ہے میرے پاس۔" جان نے خاموشی توڑی۔

"کیا؟" عبیرہ نے ایک نقلی سوال پوچھا۔

"میں آپ کے گھر پر پولیس کا پہرا لگا دیتا ہوں آئی محفوظ رہیں گی اور ویسے بھی آپ کی عدم موجودگی کے بارے میں مسٹر مہرا مجھ سے پوچھیں گے اور میں سب سنبھال لوں گا۔" جان نے بہت بے سکون لہجے میں کہا۔

"شکریہ۔" عبیرہ نے مدہم لہجے میں کہا۔ جان سستلرایا تھا۔

"ویسے کراچی میں آپ کہاں جا رہی ہیں اپنی پھوپھو کے گھر؟" جان نے اندازہ لگایا۔

"جی۔" عبیرہ نے ایک لفظ جواب دیا۔

کی! میں آپ کے احسانات کا بدلہ زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔
 بہت بہت شکریہ جان! "عیرہ نے مشکور لہجے میں کہا۔
 "آپ میرے ہر احسان کا بدلہ چکا سکتی ہیں
 عیرہ! "جان نے دغا سکرین پر لگا ہیں جمائے ہوئے
 کہا۔ عیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب جان نے گردن گھما کر
 اس کی جانب دیکھا۔

"مجھ سے شادی کرو گی؟" اس نے بہت جذب سے
 کہا اور عیرہ کو اپنی سامنتوں پر خشک ہوا۔
 "میں آپ کو زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں عیرہ!
 میں ... " اس نے مزید کچھ کہا چاہا مگر عیرہ کی قوت
 برداشت جواب دے گئی تھی وہ فوراً کار سے اتر کر اس
 اندھیری گلی میں داخل ہونے لگی جس میں اس کی پھوپکا
 گھر تھا۔

"عیرہ پلیز ایک بار صرف ایک بار مجھے اپنی زندگی کا
 حصہ بنائیں! میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنا دین چھوڑ دوں گا
 میں بس آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ
 میرے لیے بہت اہم ہیں عیرہ! میں آپ کے لیے صرف
 آپ کے لیے مسلمان ہو سکتا ہوں۔ صرف ایک بار ہاں
 کہہ دیجیے عیرہ! میں ... " عیرہ کے بہت تیزی سے چلتے
 قدم یک دھڑک گئے اور ساتھ ہی جان کے بھی۔

"جنت شنت اب جان! " عیرہ قوت سے چیخیں۔
 "میں ایک ایسا انسان کو ہرگز اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی
 جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا جس کی نظر میں اسلام کی اہمیت
 صرف اتنی ہے کہ اسے ایک حقیر انسان کے لیے اختیار کرنا
 چاہتا ہے جو دین کی آڑ میں اپنے نفس کی تسکین چاہتا
 ہے۔ نہیں ہرگز نہیں! ... مسٹر جان ویراج چوہان! کوئی بھی
 جہلم از عیرہ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ " عیرہ کے ایک
 ایک لفظ سے غم غصہ اور نفرت جھٹک رہی تھی۔ جان کو اپنی
 رگوں میں خون جمنا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی بات ختم کر کے عیرہ
 آئے، بڑھ گئی اور جان بھی دھندلائی آنکھوں نونے یقین
 کے ساتھ دائیں مڑ گیا۔ اسے شک نہیں تھا وہ یہ بازی ہارنا تھا
 اور بڑی طرح ہارا تھا۔ وہ کسی بلند چوٹی سے منہ کے بل

"جی۔" عیرہ نے گھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بے
 تاثر لہجے میں کہا۔

"اس دن میں آپ اوپر چٹھی کیوں مدد رہی
 تھیں؟" جان نے پُرسوج لہجے میں پوچھا۔
 "ان کی محبت میں جن کی محبت کے بغیر ایک مسلمان کا
 ایمان نامکمل ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔" جان نے عیرہ کے لہجے
 میں بہت عقیدت محسوس کی۔

"اسلام بہت زیادہ الجھا ہوا مذہب نہیں ہے کبھی
 آپ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے رب سے
 محبت کو ایمان کا حصہ بناتی ہیں اور آج اسے عیرہ کی۔"
 جان کا انداز الجھا ہوا تھا۔ عیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس
 نے پلٹ کر ایک بار پھر عیرہ کی جانب دیکھا۔ اس کے
 چہرے پر اکتاہٹ اور بے زاری کے تاثرات تھے۔ جان
 نے مزید کوئی بات، کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھڑی میں
 سات بج کر پندرہ منٹ اور ہے تھے اور وہ شہر کی حدود میں
 داخل ہو گئے۔

"ایڈریس؟" جان نے سوالیہ انداز میں عیرہ سے
 پوچھا اور عیرہ اسے ایڈریس سمجھانے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ
 کی ڈرائیو پر اس کی پھوپکا گھر تھا۔

"ویسے آپ کب تک رہیں گی ان لوگوں کے ساتھ؟"
 جان نے پُرسوج لہجے میں پوچھا۔
 "پتا نہیں ہو سکتا ہے شاید ساری زندگی کیونکہ انہوں نے
 مجھے کبھی گھروٹ کرنا نہ کی قسم دی ہے۔" عیرہ نے
 کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔

"کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟" جان کے لبوں
 سے ایک دم ادا ہوا۔ "یقیناً نہیں ہاں؟" وہ اپنی ہی بات کی
 نفی چاہتا تھا۔ عیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ مزید کچھ نہیں
 بولا لیکن نہ جانے کیوں ایک دم ہی اس کا دل انجانے خوف
 سے ڈوبنے لگا کچھ دیر بعد وہ عیرہ کی پھوپکا کے گھر کے باہر
 سے گزرتے تھے۔

جان! آپ نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میری مدد

اس نے بہت محبت سے انہیں سمجھایا۔ "اب آپ آرام کریں۔" اس نے انہیں لٹایا۔

"تم وعدہ کرنا احمد سے دوبارہ لے کر آؤ گے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔" وہ یقین دہانی چاہتی تھیں۔

"میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ سو جائیں ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا کہا ہے۔" اس نے کبیل اڑھایا اور گھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ بیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے انہیں لاؤنج میں بیٹھ دیکھا اسے دیکھتے ہی احرام اپنی جگہ سے اٹھا۔

"یہ کیا تھا اذان؟ آپ کی مہم طوبی کو اپنی بیٹی کہہ رہی تھیں کیوں..... کیا وہ واقعی طوبی کی ماں ہیں؟" احرام ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔

"ریٹیکس احرام! میں پہلے طوبی سے بات کر لوں۔" وہ طوبی کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔

"یہ سب کیا تھا اذان؟ مجھے....." طوبی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔

"میں نے آپ کو بتایا تھا ناں طوبی کہ آپ حقیقتاً عالیانہ عباد ہیں۔ آپ کی فیملی دس سال پہلے بکھر گئی تھی آپ کے بابا جان کی وفات ہو گئی ہے آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ آپ کی ایک بڑی بہن بھی میری ماں آپ چاہتے ہیں طور پر اپنی فیملی سے بکھر گئی تھیں۔" اذان نے نفسی طور پر بتایا۔

"بہن..... تو پھر آپ کون ہیں میرے..... اذنا آپ کا نام احمد ہے یا اذان؟" طوبی انہیں کا شکار ہوئی۔

"میں طوبی! آپ کی ایک بہن تھی ہے اور میرا نام احمد اذان ہے۔ اس لیے کچھ لوگ مجھے احمد کہتے ہیں اور کچھ اذان۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے تو وہ بالکل آسان بات ہے میں آپ کا ماموں زوکرن ہوں۔" اس نے ہنسنے لگا۔

"کیا حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں آپ لوگوں سے بکھر گئی؟" طوبی اب بھی الجھی ہوئی تھی۔

"یہ مسٹر اوز سزیا میں بہتر طور پر بتا سکتے ہیں؟" اذان

لیے۔ دن رات تمہارے حفظ و امان کی دعائیں مانگی رہی ہوں۔" انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔

"کون ہیں آپ اور میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟" طوبی کے لہجے میں اجنبیت تھی۔

"کیا ہو گیا عالی تمہیں؟ تم اپنی ماں کو نہیں پہچان رہیں؟" انہوں نے درد سے گھر بوسے لہجے میں کہا۔

"ماں.....؟" طوبی حیران رہ گئی۔

"تم مجھے پہچان کیوں نہیں رہیں عالیانہ۔" ان کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ "احمد یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی۔" انہوں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور طوبی کو لگا شاید ان کا دامنی اذان تک نہیں ہے جسی وہ اذان کو احمد بلا رہی ہیں بار بار۔

"احرام! تم طوبی کو لے کر نیچے چلو میں آتا ہوں۔" اس نے احرام کو ناطب کیا اور طوبی کو لے کر وہ دروازہ سے باہر نکل گیا۔

"احمد کیوں بیچ دیا تم نے اسے اتنے سال بعد تو وہ....." احمد نے ان کی بات کالی۔

"اماں آپ میری ہانت سنیں اور بیٹھیں۔" اس نے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔

"عالیانہ آپ کو نہیں جانتی کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں اس کی یادداشت کونہی ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ ہے انہیں ہی اپنی فیملی سمجھتی ہے۔ دس سال پہلے وہ کون تھی وہ بھول چکی ہے اب وہ موٹی یا مین ہے۔ عالیانہ عباد نہیں۔" اس نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے انہیں تفصیلی سمجھایا۔

"یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد۔" ان کے لہجے میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ "یہ کیسا انصاف ہے میرے مالک! میری بیٹی اتنے سالوں بعد مجھ سے ملے اور وہ مجھے جانتی ہی نہیں! یہ ٹھیک نہیں ہے۔" انہوں نے بڑے تکلیف لہجے میں کہا۔

"اماں یہ بات سنی ہے آپ یہ کیوں بھول گئیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہمارے سامنے ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے تو تعاقب کے برعکس اس کے ساتھ کچھ نہ انہیں ہوا اور ہاری خوش نصیبی ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے اپنے رب کا۔"

نے لائیں ظاہری۔ کیا یہ سب مذاق تھا؟“ احرام نے حیرت سے اسے

دیکھا۔ ”بہت سی بھلا مذاق تھا۔“ احرام نے تہمہ بھی کیا۔
”سوری احرام! لیکن تم بہت سیدھے ہو شادی کے

بعد طوبی تمہیں بہت آرام سے بے توقف بنائے گی۔“
اذان نے ہنستے ہوئے کہا۔

”بہت شکر یہ آپ کی بات کا لیکن یہ مذاق میں بھی
نہیں بھولوں گا۔“ احرام نے اذان سے مصافحہ کرتے

ہوئے کہا۔ ”چلیں طوبی! وہ پھر طوبی سے مخاطب ہوا۔
”آتے رہنا تم دونوں میری اماں کو اچھا لگے گا۔“

اذان نے الوداعی انداز میں کہا اور طوبی نے اثبات کی
گردن ہلائی۔

”مجھے بہت افسوس ہے احرام! میں اذان کے اتنا کچھ
بتانے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں کر پاری ہوں! میں ان

کے لیے ویسا کچھ محسوس نہیں کر سکتی جیسا تم سب کے لیے
کر رہی ہوں۔“ طوبی نے افسوس سے کہا۔

”کوئی بات نہیں لیکن اذان کے لیے کچھ محسوس
مست کرنا پڑے گا۔“ احرام کا لہجہ بہت عاجز تھا اور طوبی

بس پڑی تھی۔
.....

”ہمارے چمنل کو بہت سرلہا گیا ہے اور بہترین ٹی وی
چمنل کا ایوارڈ بھی ملا۔ آپ کیوں نہیں آئے اذان؟“

کاشان نے اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے کہا اور
انہ نے مسکراتے ہوئے فائل پر سائن کر دیا۔

”ہینو کا شان! آج مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں
کرنی ہیں۔“ اذان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا اور

کاشان بیٹھ گیا۔
”تمہیں پتا ہے کاشان! بہت جلد طوبی اور احرام کی

شادی ہو رہی ہے۔“ اذان کا انداز مطمح کرنے والا تھا۔
کاشان کا کھلا کھلا چہرہ یک دم مرجھا گیا۔

”یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اذان۔“ کاشان نے
پشورہ لہجے میں کہا۔

”کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے
.....

”اور میری بہن..... کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟“
طوبی نے پھر پوچھا۔

”نہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں
جانتا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ آپ کی طرح وہ بھی مجھنے دس

سال سے لاپتہ ہے۔“ اذان نے گہری سانس لی۔
”آپ نے انہیں ڈھونڈ انہیں اذان؟“ طوبی اب فکر

مند ہوئی۔
”بہت ڈھونڈا میں نے اسے بہت مگر مٹا وہی ہے جو کم

ہو جائے جو اپنی مرضی سے کہیں چلا جائے اسے ڈھونڈنا
نہیں جاسکتا“ تیر چھوڑوان باتوں کو لب تو تمہاری ہر ابھمن

دور ہوئی یہاں۔“ اذان نے بات کا موضوع بدلا۔
”ہاں ہوتی ہے لیکن میں اپنی فیملی کے بارے میں

اور بھی کچھ جانتا چاہتی ہوں۔“ طوبی نے پُرسکون لہجے
میں کہا۔

”اذان ایسا تو نہیں ہے جہاں آپ طوبی کو داپس اپنے
گھر لے میں گئے؟“ احرام نے خفیف لہجے میں پوچھا۔

”ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم عالیانہ کو اب آپ
کے پاس چھوڑ دیں گے۔“ اذان نے اسے تنگ کرنا

شروع کیا۔
”اور جگہ آج ابھی اور اسی وقت سے عالیانہ

ہمارے ساتھ رہے گی۔“ احرام کی ہوائیاں اڑ گئیں
جبکہ طوبی سمجھ گئی تھی۔

”یہ..... یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اذان! آج ہماری
ڈیٹ فکس ہوگی اگر میں اکیلا جاؤں گا تو انکل آئی پوچھیں

گے کہ میں طوبی کو کہاں چھوڑنا چاہوں؟“ احرام بوکھلا گیا۔
”تم کہہ دیا کہ مجھ سے بات کر لیں اور ویسے بھی طوبی

میری بہن ہے۔ اس کی شادی تو ہم اپنی مرضی اور پسند سے
کریں گے۔“ احرام کا چہرہ بالکل اتر گیا۔

”اذان بس کریں احرام کی برداشت کا اتنا امتحان نہ
لیجئے۔ اس معاملے میں یہ بہت کمزور دل ہے۔“ طوبی نے

فکر سے ہوتے ہوئے کہا اور اذان اس دیا۔

READING
Section

بندوں کے ٹوٹنے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ٹوٹے دل کا سہارا بنے گا۔" اذان بتارے کہتا چلا گیا۔

"تم نے نانوبی کے فیصلے کو مانا تو مگر دل سے قبول نہیں کر سکتے اور اسی لیے تم نے انہیں چھوڑ دیا۔" اذان نے اب بھی افسوس سے کہا۔

"آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں نے ایسا ارادہ نہیں کیا۔" کاشان کا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔

"مجھے پتا ہے کاشان! ہم اپنے پیاروں کو خود سے تکلیف نہیں دیتے بس خود بخود ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پیارے دکھی ہو جاتے ہیں۔" اذان نے اب بھی اسی انداز میں کہا۔

"لیکن ہم ان غلطیوں کو سدھار تو سکتے ہیں۔ اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار کر۔" اذان نے اس کی دل جوئی کی۔

"لیکن اب آپ یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ جاب چھوڑ کر اسلام آباد میں ہی سیشن ہو جائیں ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر محشی والے دن ملنے جائیں تو روز فون کال کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔" اذان نے ماحول کی رنجیدگی کو ختم کیا۔

"آپ لوگوں کو ہنسنا دینے کی کوئی رکھتے ہیں اذان! آپ نے مجھے جو راہ دکھائی ہے اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور میں کل ہی نانوبی سے ملنے جاؤں گا۔ ان سے معافی مانگوں گا اور وہی کروں گا۔" وہ چاہتی ہیں۔" کاشان نے اپنی جگہ سے ہلکتے ہوئے غم سے لہجے میں کہا۔

"ایک بات اور اذان! میں دعا کروں گا ہر نماز میں سچے دل سے کہ وہ پاک رب آپ کی ولی مراد بھی پوری کرے اور آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں آپ کو لوٹا دے۔" کاشان کی اس بات پر اذان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔

"نی امان اللہ کاشان! اذان نے غالباً اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کاشان مسکراتا ہوا آئس سے باہر نکل گیا۔

بڑھ جاؤ زندگی کو اپنی ٹھیں میں تمام کر نہ کھواسے آزادی دے۔" اذان نے بہت سنجھے ہوئے لہجے میں کہا۔

"میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں دنیا کی محفلوں میں کم۔ طوبی سے بہت دور آ گیا ہوں اتنا کہ اگر میں پلیٹ کے دیکھنا بھی چاہوں تو بھی میں اسے کھس دور تک بھی نہیں دیکھ سکتا اپنی زندگی میں۔" کاشان نے اسی طرح مدغم لہجے میں کہا۔

"میں کاشان! یہ صرف تمہارا وہ ہے۔ تم آج بھی وہیں کھڑے ہو جہاں تم نے طوبی کو ٹھکرایا اور وہیں تم نے اپنی نانوبی کو چھوڑا تھا۔" اذان نے پختہ لہجے میں کہا۔

"اذان یہ بالکل غلط ہے میں نے نانوبی کو نہیں چھوڑا۔" کاشان تڑپ کر بولا۔

"مجھے ایک بات بتاؤ تم نے یہاں آنے کے بعد کتنی بار اپنی نانوبی کو فون کیا؟ ان کی خیریت دریافت کی؟ کتنی بار کاشان.....؟" اذان کا لہجہ کچھ عجیب تھا اور کاشان سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

"ایک بار بھی نہیں ہے نا۔" اذان کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔

"کل رات میری ان سے بات ہوئی تھی اور ہر روز میں ان سے بات کرتا ہوں تب سے جب تم نے طوبی کو چھوڑا تھا اور ساتھ ہی پاکستان بھی۔ تمہیں پتا ہے کاشان! تمہارے اس طرح پاکستان سے چلے جانے نے انہیں کتنا ڈی ٹریڈ کیا؟ تم نے طوبی پر انہیں ذوقیت دی ان کی محبت کو مقدم رکھا مگر ان کی محبت کا پاس نہیں رکھ سکے۔" اذان کا لہجہ افسوسناک تھا۔ کاشان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔

"وہ مجھے ہر روز اپنی دل بھر کی مصروفیات سناتی ہیں ان کی این جی او کس طرح کام کر رہی ہے۔ نوکروں سے گھر میں ان کی تھریپ ہوئی ہر ایک چیز وہ مجھے بتاتی ہیں۔

حالانکہ ان کی این جی او اور ملازمت میں مجھے کیا دلچسپی ہے۔" پھر بھی مجھے بتاتی ہیں اور میں سنتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کرتا ہوں تمہیں پتا ہے کاشان؟ میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں میں اس کے

کبھی فرمیں جو میں تو آ

میری زندگی کے حصار تک
میں نے جاہ کہ میں کچھ نہیں
تیرے پہلے پا تیرے بعد تک

”اذن میں تین سال قبل میرے ملا تھا۔ مجھے نہیں
معلوم کہ میں نے یہ بات تمہیں کیوں نہیں بتائی اور میں یہ
بھی نہیں جانتا کہ میں نے کوشش کے باوجود میرے سے تمہارا
ذکر کیوں نہیں کیا۔ مجھے شاید ایسا لگا کہ وہ تمہارا نام بھی نہیں
سننا چاہتی یا پھر شاید میرے رب کو یہی منظور تھا کہ آپ یہ
بات اس وقت نہ جان پاتے کہ وہ کہاں ہے۔ کیا آپ یہ
جاننا چاہیں گے اذن کہ میرے کہاں ہے؟“ اس کے ذہن
میں پروفیسر خالد عباسی کی آواز گونجی تھی۔

”نہیں سر! اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو میں یہ نہیں
جاننا چاہوں گا کہ وہ کہاں ہیں لیکن وہ جہاں بھی ہیں کیا وہ
محفوظ ہیں؟“ اس کے ذہن میں اپنے کہے ہوئے جملے بھی
ڈنڈے تھے۔

”کیوں اذن! کیوں تم نے انکار کیا؟ تمہیں جانا
چاہیے تھا کہ وہ کہاں ہے؟ کس سال سے اس کے متلاشی
تھے ساتتے سال اس کا انتظار کرنے کے بعد کیا یہ تمہارا حق
نہ تھا کہ تم جانتے کہ وہ کہاں ہے؟“ اس کے اپنے اندر کوئی
تھا جو اس سے جنگ کر رہا تھا۔

”میرے مجھ سے نہیں ملنا چاہتی۔“ دود کی ایک لہر اس
کے وجود سے نکل رہی تھی۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر کھڑا
تھا لہر اس کے قدموں سے نکل رہی تھی۔ اس نے
آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اٹھنے والے لطفان کو روکنے کی
کوشش کی تھی۔

”وہ میرا ذکر نہیں سننا چاہتی۔ اسے میری جستجو نہیں تو
اس صورت میں کیا میرے لیے یہ جان لینا کافی نہیں کہ وہ
ٹھیک ہے وہ محفوظ مقام پر ہے یقیناً یہ میرے لیے کافی
ہے اور میری ہائی زندگی گزارنے کا زاد رہا بھی۔ اس نے
آنکھیں کھول کر حد لگا تک پھیلے سمندر کو دیکھا۔

”اگر ہم ایک دوسرے کا ٹھیک ہیں تو سات سمندر

”وہ ایک بہت خوف ناک روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس
میں تم ہمیں ملی تھیں طوبی۔“ وہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھ
پر سزیا میں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔

”پھر کیا ہوا تھا ماما جانی؟“ اس نے تجسس لہجے
میں پوچھا۔

”ہم دونوں ہی بہت ڈر گئے تھے ہم تمہیں کسی
گورنمنٹ اسپتال لے جانے کے بجائے تمہارے بابا
کے دوست کے کلینک پر لے گئے وہاں تم ایک ہفتے تک
بے ہوش رہیں اور جب تمہیں ہوش آیا تو تم یادداشت
کھو چکی تھی۔ جس کی وجہ سے تمہاری ٹیلی کوڈ مونیٹرنگ اور بھی
مشکل ہو گیا۔ تمہارے ڈاکٹر انکل نے بابا سے کہا کہ ہم
تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جائیں۔ ہماری اپنی
کوئی اولاد نہیں تھی ہمارے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ ہم
تمہیں اپنے ساتھ اپنے شہر لے گئے۔ تمہیں ایک چھ ماہ
ایک نئی پہچان اور نئی زندگی دی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئیں
ان کی سسکیوں پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔

”ماما جانی آپ دیکھیں رہی ہیں؟“ اس نے ان کے
آنسو صاف کیے۔

”تمہیں کھو دینے کے ڈر سے ابھی میری جان نکل جاتی
ہے طوبی! تم ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی ناں۔“ انہوں
نے اسے گلے سے لگایا۔

”نہیں ماما جانی! میں آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں
جاؤں گی کبھی نہیں۔ میں آپ دونوں کے بغیر جی نہیں
سکتی۔“ طوبی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔

میرا سوچنا تیری ذات تک
میری نکلنے تیری بات تک
نہ تم ملو جو کبھی مجھے
میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک
میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا
تیری نظروں سے پیار تک

READING
Section

کال رہا سیو ہوتے ہی اس نے کہا۔
 ”میں آ رہا ہوں۔“ اور کال ڈس کنکٹ کر دی۔



”وہ آخری لمحات میں صرف تمہیں اپنی نگاہوں کے
 سامنے دکھانا چاہتی تھی اذان! تمہیں بہت یاد کیا اس نے۔
 تمہیں آنا چاہیے تھا تم نے دین بدل لیا اس کا مطلب یہ تو
 نہیں ہونا کہ تم اپنی ماں کو بھول جاؤ۔ تم اس کائنات کے
 کسی حصے میں چلے جاؤ اور وہ گے تم جینتی اور دانیال کے
 بیٹے۔“ وہ اس وقت ماسی ماں کے ساتھ قبرستان سے باہر
 نکلا رہا تھا۔

”میں یہ بھی نہیں بھول سکتا ماسی ماں کہ میں دانیال
 اختیار چوہدری کا بیٹا ہوں۔ یہی میری اصل پہچان ہے۔ لیکن
 میں اسے بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتا جو جینتی ڈسوزا نے
 میرے باپ کے ساتھ کیا یہ نیا مکالمات عمل ہے جو انہوں
 نے بویا تھا وہی کاٹا۔ وہ اسی طرح مجھے دیکھنے کی حسرت
 لیے چلی گئیں جیسے میرے باپا گئے تھے۔“ اذان کے لہجے
 میں کڑواہٹ تھی اور وہ خاموش ہو گئیں کیونکہ وہ غلط نہیں
 تھا۔ جینتی نے جو کیا وہ انسانیت کے نام پر دھنسا تھا۔

اذان نے کار میں بیٹھ کر کار کا رخ اس قبرستان کی
 طرف کیا جہاں اس نے مسلمان ہونے کے بعد دانیال
 کو دفن کروایا تھا۔



”کیوں جانتا چاہتے ہو تم اذان کی زندگی کے بارے
 میں؟“ عدیل نے کاشان کے برابر صوفے پر بیٹھے ہوئے
 کہا۔ وہ دونوں اس وقت کاشان کے فلیٹ پر تھے۔
 ”کاشان میں پاتم کوئی بھی اس کے لیے پتہ نہیں
 کر سکتا خود اذان بھی نہیں۔“ عدیل اسی تسلسل سے بول
 رہا تھا۔

”میں نے اذان کو ہمیشہ ہر حال میں بہت مضبوط پایا
 ہے عدیل! لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں اس میں ایک
 عجیب ایوی ڈیکھ رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جس مقصد
 کے تحت وہ زندہ ہے وہ مقصد یک دم ختم ہو گیا ہو۔“

کے شکل فاصلہ بھی ہمیں رو رو آنے سے نہیں روک سکتا
 لیکن اگر ایسا نہیں تو وہ میرے رو رو ہو کر بھی میری
 آنکھوں سے ڈھل ہی رہے گی۔“ اس نے آنکھیں
 آسمان پر جمالی نہیں۔

”میرے پاس اپنے رب کی گواہی ہے کہ میں نے
 اس دین کو اس کا ادا اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کو سمجھ کر محسوس کر کے اختیار کیا ہے اور صرف تیری
 ذات ہی ہے جو مجھ کو میرے سچا مسلمان ہونے پر یقین
 دلا سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ کوئی بھی نہیں میرے مالک! میں
 اب تیرا فیصلہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دس سال میں آج تک
 میں نے تجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا مگر آج کرتا ہوں میں
 نے آج تک کبھی مجیرہ کو نہیں مانگا مگر میں آج تجھ سے اسے
 اپنے لیے مانگتا ہوں۔ اس کے دل میں اپنی محبت دیکھنا
 چاہتا ہوں میرے مالک! اس نے آنکھیں بند کی تھیں
 اور صدق دل سے اپنے رب کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس لمحے
 خود کو خانہ کعبہ کے دروازہ کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ یہ حیران کن
 تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے دروازہ کھڑے ہو کر ہمیشہ مجیرہ
 کی حفاظت پر ان زندگی اور کامیابیوں کی دعائیں مانگی
 تھیں مگر آج تک کبھی خود اپنے لیے مجیرہ کو نہیں مانگا تھا اور
 آج وہاں نہ ہونے ہوئے بھی وہ اس کو وہاں محسوس کر رہا تھا
 اور غیر ارادی طور پر اس کا دل مجیرہ کو مانگا بیٹھا تھا اس نے
 گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ایک
 نازکی اور سکون۔ یہ اپنے وجود میں اترا محسوس ہوا تھا۔

”وہ ٹھیک کہتی تھی تو مختار گل ہے بے شک تیرے سوا
 کوئی نہیں جسے مجیرہ کیا جائے جس کی عبادت کی جائے
 جس سے بے پناہ محبت کی جائے۔ میرے مالک! اپنے
 گزشتہ ہر کفر سے ایک بار پھر توبہ کرنا ہوں میں۔ بس مجھے
 اپنے صالح اور سنی بندوں میں شامل رکھ آئیں۔“ وہ
 ساحل سمندر سے اونٹے ہوئے سوچ رہا تھا کار میں بیٹھ
 کر اس نے موبائل چیک کیا۔ چار مسڈ کالز تھیں ماسی ماں
 کا تھا وہی سچ بھی تھا اس نے سچ پڑھا ایک محسوس اس
 کی نگاہوں میں ابرا تھا۔ اس نے ماسی ماں کا نمبر ڈائل کیا

READING
 Section


کاشان نے کچھا بھن سے کہا۔
 ”جی ہاں، کچھا بھن سے کہا۔“
 ”تجلی کو کو کیا ایسا ہی ہوا ہے۔“ عدیل نے ذومعنی لہجے میں کہا۔
 ”سب کچھ بتاؤ گے۔“ انہوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔



شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے وہ بچن میں کھڑا اپنے لیے کالی بنا رہا تھا۔
 ”اٹھ گئے جان!“ اس کی ممانے مگن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

”اب بتاؤ کہاں تھے کل سارا دن۔ میں نے کتنی بار تمہارا نمبر ٹرائی کیا، نمبر آف تھا..... کیوں؟“ اس کے قریب پہنچ کر وہ اس سے پھر مخاطب ہوئیں۔
 ”موبائل کی بیٹری لومٹی اس لیے آف تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا اسی لیے کل پارٹی میں نہیں آ سکا۔“ اس نے بہانہ بنایا۔
 ”جھوٹ بول رہے ہو، میں مجھے یقین ہے تم پھر مجھ سے کس پاس گئے ہو گے۔ یہ لڑکی تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔“ ان کا لہجہ تلخ تھا۔

”مما پلیر! مت لیس اس کا نام میں اب اس کا ذکر بھی نہیں سنا چاہتا۔ میں..... میں اس سے صرف نفرت کرتا ہوں۔“ جان نے بہت کمزور لہجے میں کہا اور کپ اٹھائے مگن سے باہر نکل گیا۔ وہ پہلے حرمت سے اسے دیکھتی رہیں پھر مسکرائیں کہ بلا آخران کے بیٹے کی آنکھیں کھل ہی گئیں۔



وہ پھر دے کر باہر نکلا تو اس نے راہداری میں عدیل کو اپنے منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی جان نے اپنا راستہ بدل لیا۔
 عدیل اسے آواز دیتا اس کے پیچھے آنے لگا مگر جان نے اسے نظر انداز کر دیا اور سن گلاسز لگاتے ہوئے ڈیپارٹمنٹ سے باہر نکل آ گیا۔

”جان کیا ہو گیا ہے کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تم سن کیوں نہیں رہے ہو؟“ عدیل اب اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔

”کیا مطلب؟ ایسا کون سا مقصد تھا اذان کی زندگی میں..... کبھی ایسا تو نہیں کہ کوئی تھا اذان کی زندگی میں؟“ کاشان نے چائیتے والے انداز میں کہا۔ عدیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔

”توہ مائی گاڑا تو پھر کیا ہوا تھا عدیل! اذان اکیلا کیوں رہ گیا؟ تو ایک مکمل انسان ہے اور ایک بہترین صاحب مسلمان بھی۔“ کاشان نے تشویش سے پوچھا۔

”تم جبراً احمد اذان کو آج جانتے ہو کاشان وہ دس سال پہلے احمد اذان نہیں تھا۔“ عدیل کا لہجہ اب بھی ذومعنی تھا۔ کاشان نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔

”وہ جان، برانچ چرمان تھا۔“ عدیل نے بہت جذب سے کہا اور کاشان کی آنکھیں حرمت سے کھل گئیں اور عدیل نے مزہ بہنا شروع کیا۔



مجھ کو چھوڑ کر وہ اسی رات بہت تیز رفتاری سے اپنے شہر واپس آیا تھا۔ مگر پہنچ کر وہ سیر حال اپنے کمرے میں گیا روم اور کرسی ٹری کی لائٹ آف کر کے وہ بیڈ پر دناز ہو گیا اور بہت جلد گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن ملانے زمیندستی اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر شدید ٹھکن کے سبب اس سے سناٹا نہیں جا رہا تھا۔

”جان کل تم کہاں تھے سارا دن کرسی پارٹی میں بھی نہیں آئے۔ مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تمہیں کچھا نمازہ بھی ہے۔“ انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔

”سو ری نام!“ اس نے نیند سے پھر پور لہجے میں کہا۔
 ”اٹھ جاؤ بارانچ چکے ہیں۔“ انہوں نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑا۔

”ابھی نہیں، میں خود اٹھ جاؤں گا مجھے سونے دیں۔“ عدیل نے کبل مین تک لیتے ہوئے کہا اور انہیں اپنی محنت سے بیکار نظر آ رہی گئی۔

READING
Section

"سچ کہا تو بکواس لگ رہی ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔" جان کا لہجہ طنز سے بھر پور تھا۔
"جو تم کہہ رہے وہ سچ نہیں ہے۔ مسلمان ہرگز ایسے نہیں ہوتے۔" عدیل جھنجھلا گیا۔

"نے کار بحث کر رہے ہو عدیل تم مجھ سے۔ میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں جس سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تم مسلمان ایسے ہی ہوتے ہو سب سے بڑی مثال تو تم ہو تمہارے نانا ایک مذہبی رہنما ہیں مگر غیرہ کی عملی کی مدد کرنے کے بجائے انہوں نے تمہیں بھی قطع تعلق کے لیے کہا تھا غائبیہ کا نام نہاد شوہر مصیبت پڑنے پر سب سے پہلے اسی نے غیرہ کا ساتھ چھوڑا اور خود غیرہ! جو ہر ایک کی نظر میں ایک آئیڈیل مسلمان ہے جو اسے مطابق نون مسلم کو بھی عزت اور احترام کا درجہ دیتی ہے مگر وہ بھی حقیقتاً ایک ہندوئی مسلمان نکلی، بغض اور کینہ رکھنے والی مسلمان۔" غیرہ کے بارے میں جان کے یہ خیالات چونکا دینے والے تھے عدیل کے لیے۔

"میں نے ہر مشکل ہر مصیبت میں اس کی مدد کی زندگی دیکھا نہ رات۔ ہر لمحہ اس کی فکر اور بدلے میں اس سے کیا چاہا زندگی بھر کا ساتھ میں تو اس کے لیے مسلمان ہونا چاہتا تھا اور اس نے مجھے کس نام سے نوازا ایک جھوٹے اور مکار کے لقب سے۔ میں دھوکے باز ہوں یہ کہا مجھے مگر حقیقت میں یہاں تک تم لوگ ایسے ہو۔" جان کے لہجے میں شدید نژدہ امت ہوئی۔

"میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو آج جان! عدیل بمشکل بولا تھا۔

"آج ہی تو میں ہوش میں ہوں عدیل! آج ہی تو میری آنکھیں کھلی ہیں۔ تم اب مجھے دھوکا نہیں دے سکتے ہرگز نہیں۔" جان کا لہجہ بہت جھستتا ہوا تھا۔

"نہیں جان! حقیقتاً آج تمہاری آنکھیں کھلی نہیں بلکہ بند ہوئی ہیں جیسی تم ایچھے اورندے کے فرق کو نہیں دیکھ پا رہے ہو آج غصہ اور غم تم پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ تم غیرہ کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو۔ کوئی

"کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔" جان نے دہشت لہجے میں کہا۔

"نہیں پتہ ہے؟" عدیل کو ہنسا لگا۔

"آنکھوں کے ساتھ ساتھ کیا دماغ پر بھی چشمہ پہنانا لیا ہے؟ آنکھوں سے یہ چشمہ نازو بھر تمہیں پتا چلے گا کہ میں عدیل ہوں۔" عدیل نے طنز سے بھر پور لہجے میں کہا۔
"تم ہونے کون ہو مجھے کوئی بھی حکم دینے والے نہ ہو میرے راستے سے۔" وہ اسی انداز میں بولا عدیل کو ایک طرف دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔

"کیا بد تمیزی ہے یہ؟ کیا منہ زبانی بھول گئے ہو تم۔" عدیل تڑپ کر بولا۔

"مجھ پر جلانے کی کوشش مت کرو۔" جان نے پٹت کر اس سے بھی تیز آواز میں کہا اور عدیل شپٹا گیا۔ اسے جان کی بے رحمی کی وجہ تک سمجھ نہیں آئی تھی۔

"کوئے زلیخا کس..... پڑ سکون ہو جاؤ۔" عدیل نے صلح جو انداز میں کہا۔ "آفر مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟" عدیل پوچھی تھا۔

"اپنی اہلیت مت دکھاؤ تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ میں ان جھکنڈوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔" جان نے بے نفرت لہجے میں کہا اور عدیل اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔

"مقصوم چہرے، ٹھٹھے بول اور دلوں میں اتنی نفرت نون مسلم کے لیے۔ سیاہ دل ہوتے ہو تم سب مسلمان جیسا ظاہر کرتے ہو اس کے بالکل الٹ ہو۔ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانے والے ضرورت کے وقت نون مسلم تمہارے لیے ان مسلم نہیں ہوتے اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے وہ تمہارے لیے نون مسلم ہو جاتے ہیں۔ اچھی مطلق ہے تم لوگوں کی جو صرف تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔" جان نے ہر لفظ چبایا کر کہا۔

READING Section
چپ ہو جاؤ جون.....! آؤ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تمہیں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہارے جو منہ میں آئے وہ کہناں قسم کی بکواس نہ کرو۔" عدیل کو اب غصہ گیا تھا۔

فرق نہیں رہ گیا تم میں اور احمد میں۔ اس نے بھی بیمرہ کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور تم بھی اسے بے کردار کہہ رہے ہو۔ عدیل نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا۔

”عدیل.....!“ جان پوری قوت سے چیخا اور عدیل کا گریبان تھا سلیا۔

”تمہاری اہت کیسے ہوئی یہ کہنے کی۔“ اس نے پوری قوت سے ایک ادا عدیل کے منہ پر مارا اور وہ لوندھنے منہ زمین پر گرا۔ گارڈن میں کھڑے لڑکے جلدی سے آگے بڑھے کچھ نے جان کو کچڑا اور کچھ نے عدیل کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔

”چھوڑو مجھے تم لوگ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔“ جان نرمی طرح غرارہا تھا۔

”تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جان! اپنے دوست پر سب ختم کر دیا تم نے سب کچھ آج میں تم سے اپنے دوست ہونے کا حق چھینتا ہوں۔ ختم ہو گئی تمہاری اور میری دوستی۔ تم بہت بچھتاؤ گئے اس پر جو تم نے کیا..... تم بہت بچھتاؤ گئے۔“ عدیل رو بہ جان نے ایک تھکے سے خود کو چمڑایا۔

”جان دیرانچ چوہان نہ تو کبھی بچھتایا ہے اور نہ کبھی بچھتائے گا۔ تم پیسے بہت سائے اور گئے میری زندگی پر نہ تو کوئی فرق پڑا اور نہ ہی پڑے گا۔“ جان نے بہت غصیلے لہجے میں کہا اور پلٹ کر لڑکوں کو ایک طرف دھکیلتا اپنی کازکی

جو نب بڑھ گیا۔ نب کہ عدیل بے بس نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔

آج اس کا آنری بیچر تھا، جیسے ہی بیچر دے کر اپنی کار میں آ کر بیٹھا کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر رکھی اور اس کا دماغ تار بکھوں میں ڈوب گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود از بخیروں میں جکڑا پایا اور فرش پر کسی کے قدموں سے ۱۰۰۰ روپے اٹھا کر دیکھا تو وہ مسر مہرا تھا۔

”تمہا کہ مجھے تم سے یہ سوال پوچھنا سنا“ مسر مہرا نے طنز سے

تاکہ تم مجھے دھوکا نہیں دو

”آپ بہت ہی بے ہودہ ہیں مسر مہرا!“ جان کو غصا گیا۔

”میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ بیمرہ کہاں ہے سیدھی طرح بتا دو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔“ ان کا لہجہ دمکی آ میز تھا۔

”مجھے آپ کی کسی دمکی سے ڈر نہیں لگے گا اب کیونکہ جس کی زندگی ختم کرنے کی آپ نے مجھے دمکی دی تھی وہ اب محفوظ جگہ ہے اور اپنی زندگی کی مجھے کوئی پروا نہیں۔“ جان نے بہت اطمینان سے کہا۔


”لے جاؤ اس خبیث کو اور اتنا مارو کہ اس کی زبان ٹوٹ، خود لپٹنے لگے۔ لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے۔“ وہ نرمی طرح دھارے اور ان کے آدمی اسے تھپتے ہوئے لے گئے دو گھنٹے مسلسل اس پر ہانڈے اور ہاکیاں برساتے رہے اس کے جسم کی کوئی بھی ہڈی اب سلامت نہ رہی مگر اب بھی اس کے لب خاموش تھے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔

”بہت ذہین انسان ہے سوت کو گلے لگائے گا مگر اس لڑکی کا پتا نہیں بتائے گا۔ محبت ہے کہ جنون۔“ مسر مہرا نے اس کے ہال مٹھیوں میں لیے اور پھر پوری قوت سے اس کا سر زمین پر دے مارا۔ وہ لب مکمل طور پر دنیا را مانیہا سے بے خبر ہو گیا تھا۔

”لے جاؤ اسے اور پھینک دو کسی سڑک پر جو چند

READING
Section

سائیس بھی ہیں وہ بھی پوزی ہو جائیں گی۔ انہوں نے
حد درجہ نفرت سے کہا اور مہرا کے آدھی جان کو کھینٹنے لے
گئے جان کا پورا پورا خون میں ڈوبا ہوا تھا۔



آسان پر تار کی چھائی ہوئی تھی ہر شے پر سکوت تھا۔
آج وہ چہرے سے گہرے اندھیرے کا شکار تھا مگر آج وہ
جاوئی لفظ کہیں سنائی نہیں دے رہے تھے وہ اندھیرے
میں ہی چل پڑا مگر ایک ہی اس کا پاؤں کچھڑ میں چلا گیا
اس نے پاؤں نکالنے کی کوشش کی مگر ایک پاؤں نکالنے کی
کوشش میں دھرا بھی کچھڑ میں دھنس گیا۔ دھیرے
دھیرے اس کے پاؤں کھنوں تک کچھڑ میں دھنس گئے
اب اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا اور اس نے حلق کے
بل چیننا شروع کر دیا دیرانے میں اس کی اپنی آواز کی
بازگشت تھی کوئی دور تک بھی نہ تھا جو اس کی آواز پر اس کی
مدد کو آتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری اور خوف
ناک دلدل میں دھنس گیا ہے اس کا آدھا دھڑھل طور پر
دلزل میں غائب ہو چکا تھا۔

”کوئی ہے جو میری مدد کرے..... پلیز جیرہ میری مدد
کریں۔ آپ نے تو ہمیشہ اندھیروں میں میری رہنمائی کی
ہے آج اس طرہ سے بھی مجھے آزادی دلا دیجئے وہ
گڑبڑانے لگا مگر کوئی نہ آیا وہ رونا تک دلدل میں دھنس
چکا تھا۔

”ہر انسان خود کو عقاب کھلتا ہے۔ مگر حقیقت میں
ایک انسان کی حیثیت اس دنیا میں ایک خزاں رسیدہ پتے
سے زیادہ نہیں۔ انسان اپنے رب کی ایک انتہائی عاجز اور
حقیر مخلوق ہے اور حقیقتاً اس عقاب کھلتا ہے۔“ جیرہ کے جملے
ایک بار پھر اس کے ذہن میں روشن کرنے لگے۔

”عقاب کھلتا جیرہ کارت جس سے جیرہ بے حد محبت کرتی
ہے۔ میں تجھ سے بددعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تجھ سے

صرف اس کا سیدھا ہاتھ تھا جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا وہ
دلدل سے باہر نہ گیا تھا ایک دم ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھاما
اور دلدل سے باہر کھینچا گرفت سے محسوس ہوا کہ وہ کوئی
مروانہ ہاتھ تھا۔ وہ دلدل سے باہر نکل آیا اس کے روبرو
ایک بہت باوقار انسان کھڑا تھا۔ سفید لباس میں لمبوں
چہرے سے پھوٹا نور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دل پر
ہاتھ رکھا اور خود اس کا وجود بھی نور میں ڈوب گیا۔

”کہو کہ اللہ لیک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا
ہے اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہی تمام جہانوں کا
پالنے والا ہے۔ وہی تمام کائنات کا بے تاج بادشاہ ہے۔“
وہ ہستی اس سے مخاطب بھی وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا
تھا اس نے آنکھیں بند کر کے کہنا شروع کیا اس کا دل
تنبہ سرشاری کا شکار تھا۔ اسے تسکین مل رہی تھی اس نے
دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور بہت تیز روشنی اس کی
آنکھوں میں گھسی تھی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور
جب ہٹایا تو خود کو ہاسٹل کے بیڈ پر پایا وہ دلدل وہ جھل
نہیں نہیں تھا۔ اس نے گردن کھما کر ادھر ادھر دیکھا
سراسر والی دیوار کے ساتھ رکھے بیڈ پر عدیل بیٹھا تھا اسے
دیکھ کر جان کو کچھ حیرت سی ہوئی۔

”عدیل.....!“ اس نے حیرت سے کہا اس کی آواز پر
عدیل نے آنکھیں کھول دیں ادارے ہوش میں آنا دیکھ کر
اس کے قریب چلا آیا۔

”تم ٹھیک ہو جان! اللہ کا شکر ہے میں ابھی ڈاکٹر کو
باتا ہوں۔“ اس نے شبلی پر رکھے فون کا ریسیور اٹھاتے
ہوئے کہا اور استقبالیہ پر کال کی۔

”کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟“ عدیل نے بیڈ کے
ساتھ رکھے اسٹول پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔

”اچھا۔“ جان نے یک لفظی جواب دیا۔
”دوستہد...“

READING
Section

اس کے ساتھ ہوتیں اور رات میں عدیل۔ اس دوران عدیل نے اس میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی تھی وہ کم گو ہو گیا تھا زیادہ تر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا۔ کوئی سوال کرنے پر مختصر سے مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا۔

”کیا بات ہے جان! میں بہت دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم صرف خاموشی سے میری باتیں سنتے رہتے ہو خود بات کرتے ہو نہ کسی بات کا صحیح جواب دیتے ہو۔ ناراض ہو مجھ سے اب بھی؟“ عدیل نے تشویش سے پوچھا۔

”نہیں نہیں عدیل! پلیز ایسا مت کہو میں پہلے ہی اپنے گزشتہ رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں یہ کہہ کر مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔“ جان نے شرمندہ لہجے میں کہا۔

”شرمندی؟ بے خوف میں اتنے دن سے اپنے پھولے سے دماغ کو محسوس رہا ہوں کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہے۔ جان تم تو مجھ سے بڑے گدھے ہو۔“ عدیل نے متہمسودتے ہوئے کہا اور جان ہنس دیا۔

”جان، ٹھکراؤ ہیں ہوتا ہے جہاں بہت محبت ہوتی ہے اور مجھے اپنے دوست سے بے حد محبت ہے۔“ عدیل خوش دلی سے کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔

”ہاں مجھے یقین ہے جیسی تو تم میری زندگی بچانے کا ذریعہ بنے۔“ جان نے اس کی چیخے تھپتھپاتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔

”عدیل یہاں سے نکل کر میں سب سے پہلے پھر سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنی ہے۔“ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور عدیل کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔

”معافی..... کس غلطی کی معافی.....؟“ عدیل نے اس کا چہرہ اپنے رویہ کرتے ہوئے کہا اور جان نے دیکھے لہجے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ عدیل کا چہرہ اتر گیا۔


”یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جان!“ عدیل نے آنسوؤں سے کہا۔

”میں جانتا ہوں عدیل! اسی لیے اس سے ملنا چاہتا

ہے ہوشی کی حالت میں ہی شروع ہو گیا اور نئے سال کا تیسرا مہینہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔“ عدیل کا انداز مطلع کرنے والا تھا جان کو یقین نہیں آیا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر جان کا چیک اپ کیا اور آرام کا انجکشن لگا کر چلا گیا۔

”مما کہاں ہیں عدیل! اور مجھے یہاں کون لایا؟“ جان کو عدیل سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔

”آنٹی کچھ دیر پہلے ہی گھر گئی ہیں اس لیے میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ہمیں اسپتال میں لایا تھا میں نے مسز مہرا کے ذہن کو تمہیں انوا کرتے دیکھ لیا تھا میں نے آنٹی کو انفارم کیا اور انہوں نے ڈی آئی جی سے رابطہ کیا۔ ڈی آئی جی نے فوری ایکشن لیا ہم لوگ پولیس کے ساتھ مسز مہرا کے گھر پہنچے مگر وہ لوگ تمہیں وہاں لے کر نہیں گئے بہت مشکل سے ان کے ایک آئی نے بتایا کہ وہ تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے گئے ہیں۔ فارم ہاؤس کا ایڈریس لے کر ہم وہاں پہنچے اسی کے قریب سڑک پر ہم نے تمہیں دیکھا تو میری اوتا نٹی کی تو جان ہی نکل گئی۔ ہم تمہیں لے کر نورا اسپتال آئے جب کہ ڈی آئی جی نے مسز مہرا اور ان کے آڈیشن کو گرفتار کر لیا۔ جس وقت ہم تمہیں اسپتال لائے جان! اس وقت تمہارے وجود میں سانسیں کہیں ہی باقی تھی ڈاکٹر مایوں تھے انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ تم بچ پاؤ گے۔ کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں دو دن تک تمہاری سرجری جاری رہی اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ تم کو، میں چلے گئے ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ پاک نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب تمہاری یہ زندگی ایک مجروحہ ہے۔“ عدیل ایک سلسل سے بولتا رہا اور حیران کن لگا ہوں سے جان اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے مینڈے سے بوجھل آنکھوں کو بند کر لیا۔



ایک ہفتہ گزر گیا اسے کومہ سے باہر آئے۔ وہ اب خود چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ دن کے وقت اس کی ماما

READING
Section

ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی ملنا کو بھی ساتھ لے جائیں وہ یہاں سے جاتے وقت ان کے لیے بہت پریشان تھی۔" جان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔
 "تم ایسا نہیں کر پاؤ گے جان! کیونکہ میری لہجہ کی لہجہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔" عدیل کی بات سن کر جان اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔

"تمہیں اور میری کو محلے کے کچھ لوگوں نے ساتھ جاتے دیکھا تھا اس بات کو لے کر انہوں نے آئی کو اسے طعنے دیئے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ کہاں گئیں کوئی نہیں جانتا۔" عدیل نے مایوس کن لہجہ میں کہا اور جان ایک ان چہ گناہ کے بوجھ تلے گیا۔



ڈسپارچ ہو کر جب وہ گھر آیا تو مایا کو اپنا ہنسر پایا۔ وہ آج سے پہلے بھی ان کے گھر نہیں آئی تھیں۔
 "مائی ماں آپ یہاں....." وہ خوشی سے پھولے نہ سہا پہ وہ مسکرائی اور اس کے قریب چلی آئیں۔
 "کیسا ہے میرا جان!" انہوں نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔

"ڈاکٹر نے آرام کا تاپا ہے اور زیادہ بات کرنے کو بھی منع کیا ہے۔" اس کے بجائے ماما بولیں۔
 "موم پلیز۔" جان نے فوراً کہا۔

"رہنے دو جان! جن کے دل سیاہ ہوں ان کی زبان میٹھی نہیں ہو سکتی اور ایسے ہی جگہ میں یہاں تمہیں دیکھنے سے تمہیں دیکھ لہرادل کو تسلیم ہو گئی لب میں چلتی ہوں۔" انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
 "نہیں مائی ماما! آپ ایسے نہیں جاسکتیں۔ آپ آج یہاں ہمارے ساتھ رکھیں گی۔" جان نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔

"نہیں جان! بس اس گھر میں کھڑی ہوں تو صرف میرا دل جگہ سے۔ میرا دل گھٹتا ہے یہاں خوف آتا ہے مجھے گھر کے بے زبان درد دیدار سے جو اپنی خاموش زبان



درد سے پر تالا لگا تھا۔
 "ہو سکتا ہے کہیں گئے ہوں ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔" جان بولا اور عدیل نے اثبات میں سر ہلایا۔ میرے دیر سے وقت گزار رہا ہوں ہر شام ہو گئی

سے نہ جانے کیا کیا دیکھ اور سہہ چکے ہیں۔" انہوں نے ذومعنی انداز میں کہا۔
 "تمہیں یہاں روکنے کا ہمس بھی کوئی شوق نہیں تم جاسکتی ہو۔" اس کی ممانے بہت کڑوے لہجہ میں کہا۔
 جان کچھ کچھ نہیں پایا اس خاموش جنگ کو ان کے جانے کے بعد وہ اپنی ماما سے مخاطب ہوا۔
 "کیا مطلب تھا مایا کی باتوں کا مانا؟" اس کے لہجہ میں تشویش تھی۔

"مجھے کیا معلوم؟" اس سے بکواس کرنے کی عادت ہے تم توجہ نہ دو تمہیں ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے تم آرام کرو۔" انہوں نے اس کا کندھا چھسپایا اور وہ خاموش ہو گیا۔



"عدیل ہم آج کراچی چل رہے ہیں میں دن بجے تمہیں ایک کر رہا ہوں ماما دو ہفتوں کے لیے پرنس میٹنگ پر گئی ہیں یہ اچھا موقع ہے ہم صبح سے شام تک واپس بھی آجائیں گے۔" اس نے فون پر عدیل کو اطلاع کیا اور اس نے رضامندی ظاہر کی۔ تقریباً دوپہر کے ایک بجے وہ اسی گلی میں کھڑے تھے جہاں ماما پہلے اس نے میری کو پھوڑا تھا۔

"جان! میری ان میں سے کن گھر میں گئی تھی؟" عدیل نے اس گلی میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔
 "پتا نہیں کیونکہ گلی میں اندھیرا تھا اور میں اس سے بات کر کے فوراً ہی پلٹ گیا تھا۔"

"تمہیں اس کی پھوپھو کا نام معلوم ہے تو ہم ان کے نام سے کھر پوچھ لیتے ہیں یا پھر میری کے کزن عبدالعزیز کے نام سے؟" جان نے تجویز پیش کی اور عدیل نے عبدالعزیز کے نام سے کھر ڈھونڈنا شروع کیا جلد ہی انہیں گھر مل گیا مگر گھر کے سامنے کھینچ کر دونوں ہی ششدر رہ گئے

”مسلمان لڑکی!“ ماسی ماں نے حیرت سے کہا۔
 ”جی ماسی ماں!“ اور پھر اس نے ایک تسلسل سے
 انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔
 ”کیا ہوا ماسی ماں! آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟“
 جان کا تشویش ہوئی۔

”وقت خود کو دہرا رہا ہے جان! جس دین سے درد
 رکھنے کے لیے تمہاری ماں نے اتنے جنم کیے تم اس کے
 ہی عیروکار بن رہے ہو۔ یہ قدرت کا انصاف ہے۔
 حقیقت ہے انسان اپنے اصل سے ہرگز دور نہیں رہ سکتا اور
 تم بھی نہیں رہ پاؤ گے اپنی حقیقت سے دور۔“ ان کا لہجہ
 خواہید تھا۔


”کیا مطلب؟“ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
 ”میری ہر بات کا مفہوم تمہاری ماں کو معلوم ہے۔ وہ
 تمہیں بہتر طور پر ہر بات بتا سکتی ہے مگر وہ نہیں بتائے گی
 کیونکہ اپنا اصل چہرہ دکھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوگی۔
 ہاں شاید تمہارے ماما جان تمہیں حقیقت سے آگاہ کر سکیں
 کیونکہ وہ خود جس عذاب میں مبتلا ہیں اور جس میں مبتلا
 ہو کر ان کی بیوی مری اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا
 کہ انہوں نے جو تمہارے باپ کے ساتھ کیا وہ ایک خوف
 ناک داستان تھی۔“ ان کا انداز اب بھی وہی تھا جان اپنی
 جگہ نہ گیا۔

”جان کیسی طبیعت ہے تمہاری اور تم یہاں کیوں چلے
 آئے؟“ معنی تو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹرز نے تمہیں آرام کا کہا
 ہے۔“ جان کی اچانک آواز پر وہ حیران رہ گئے۔
 ”بس میں بہت بڑھ چکا ہوں ہاں تمہاری گھر پر نہیں تمہیں
 میں نے سوچ میں آپ سے مل لوں۔ آپ کی طبیعت کیسی
 ہے؟“ وہ ان کی دلچسپی کے سامنے بیٹھے ہوئے بولا۔
 ”میں ٹھیک ہوں تم خواہو تو پریشان ہوئے۔“ انہوں
 نے پار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

”گرینڈ! میرے بابا کیسے تھے؟ آپ لوگوں نے تو
 آج تک مجھے ان کی ایک تصویر بھی نہیں دکھائی۔“ رات کو

مگر کوئی نہیں آیا۔ اب ان دونوں نے آس پاس کے لوگوں
 سے پوچھنا شروع کیا لیکن ان کا جواب انہیں حیرت پریشان
 کر گیا۔ وہ گھر کی مہذبوں سے بند تھا وہ لوگوں کو کچھ بھی بتا
 تائے رات میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ یہ جوابات
 جان کو سکت کر گئے تھے۔

”میں جانتا ہوں عدیل! بیبرہ میری وجہ سے یہ گھر
 چھوڑ کر گئی ہوگی۔ اے یقین ہوگا کہ اس کے نکاح کے بعد
 میں مسز مہرا کو اس گھر کے بارے میں ایمان کے بارے
 میں بتا دوں گا۔ وہ میرے ہاں سے اس انتظار کو جھٹکتی ہے
 مجھے اندازہ ہے عدیل! جان کا لہجہ بالکل بگرا ہوا تھا
 عدیل نے سن لگا ہوں۔ سنا سنا دیکھا رہا۔



کراچی سے آئے اسے ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر اس کا
 دل اب بھی صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا جو ہوا اس کی
 وجہ سے ہوا۔ بیبرہ اسے اتنا غلا مکتی تھی کتنا کر گیا تھا وہ اس
 کی نظروں میں۔ عدیل اسے گھنٹوں سمجھاتا رہتا مگر اس
 کے کان پر جوں ہی نہ سنتی۔

”کیسے ہو جان! آج اس کی ماسی ماں نے اسے فون
 کیا تھا۔

”ٹھیک۔“ اس نے مختصر کہا۔
 ”کیا ہوا آواز اتنی ایوس کن کیوں ہے؟“ وہ فوراً
 بھانپ گئیں۔ اس کا دل بوجھل تو ویسے ہی تھا اب
 برواشت جواب دے گئی تھی۔

”میں یاد گیا ماسی ماں باوہ جیت گئی۔ وہ زندگی بھر کا
 بچھڑاوا چھوڑ گئی ہے میری قسمت میں۔ میں اسے بھول
 نہیں پارہا نہیں بھول پارم۔“ وہ تڑپ کر رہا تھا۔ وہ ان
 سے وہ سب کچھ کہہ رہا تھا جو وہ اپنی ماما سے نہیں کہہ سکتا تھا۔
 ”زیلیکس جان! کون ہے..... کس کے بارے میں
 بات کر رہے ہو؟“ وہ گھبرا گئیں اس کے اس طرح تڑپ
 کرنے سے۔

”میں لڑکی ہے ماسی ماں! اس کا نام بیبرہ
 ہے۔“ جان نے خود کو متعجب کرتے ہوئے کہا۔

کہا۔ نہ کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں اٹھس لے آیا۔

”بہت ہی اچھا انسان تھا تمہارا باپ بہت پیار بھی کرتا تھا تم سے۔ جان بندھی تم میں اس کی۔ اکثر یاد آتا ہے وہ مجھے۔“ انہوں نے پروسچ لہجے میں کہا۔

”یک بات پوچھوں گریڈ پا آپ سے؟“ اس نے کچھ سوچ کر کہا۔

”ہاں پوچھو؟“ انہوں نے شفقت سے کہا۔

”آپ اور ماما ماسی ماں سے کیوں نہیں ملے؟ کیا ہوا تھا ایسا جس نے آپ کے دل میں ماسی ماں کے لیے اتنی نفرت بھری۔ وہ بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہیں پھر آخریوں آپ ان کی شکل بھی نہیں دیکھتے؟“ جان کا لہجہ اچھن سے بڑھتا۔

”کچھ خاص نہیں ہیں اس کے سسرال والوں سے بگڑا ہوا تھا اسی لیے۔“ انہوں نے نگاہیں جھرائی تھیں۔

”نہیں گریڈ پا! آپ غلط یہانی کر رہے ہیں کیونکہ ماسی ماں کے گھر والوں سے میں بھی ملا ہوں آج تک انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی کیوں آپ لوگ مجھ سے حقیقت چھپانا چاہتے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جسے آپ راز رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ماسی ماں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ جو کیا وہ ایک خوف ناک داستان ہے۔ کیا کیا تھا آپ نے بابا کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور سچ جانے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔“ جان نے حتمی لہجے میں کہا۔

”حقیقت نہیں بتا سکتا میں تمہیں جان! حقیقت زہر کا گھونٹ ہے تم نہیں پی پاؤ گے۔“ انہوں نے ڈائل چیئر کا رخ موڑ لیا مگر جان ان کے اور ور واز سے کے درمیان حائل ہو گیا۔

”آپ اس طرح نہیں جا سکتے گریڈ پا! آپ کو مجھے ڈانٹنا ہی ہو گا ہر حال میں۔“ جان بضو تھا۔

”نہیں جان! تمہیں بھی نہ کھونے کے لیے ہم نے وہ سب کیا تھا اور آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں گوا سکتے۔“ وہ گڑ گڑانے لگے۔

”آپ مجھے سچ نہ بتا کر بھی گوا دیں گے۔“ انہوں نے دیکھا اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پٹیل نکالی اور اپنے سر پر رکھی۔


”جان.....!“ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔

”میں ایسا ہی کروں گا گریڈ پا! آپ جانتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔“ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔

”میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا جان! لیکن خود کو کچھ نہ کرنا پلیز اور ہو سکتے تو مجھے بھی معاف کر دینا۔“ انہوں نے اٹھا کی اداس نے پٹیل واپس اپنی جیکٹ میں رکھی۔

”تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے جان! تم ہم میں سے نہیں ہو۔“ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ ”تم جان ویرا ج چوہان نہیں بلکہ..... اذان دانیال ہو۔“ انہوں نے انگ انگ کر اپنا جملہ مکمل کیا اور جان کو لگا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا اور وہ ایک مسلمان تھا اور آج تک اس بات سے بے خبر تھا۔

”تمہارے باپ کا نام دانیال افتخار چوہدری تھا۔ اس نے جینی سے اپنے والدین کے خلاف جا کر شادی کی عیسائی ہوا مگر بہت جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اسلام دوبارہ قبول کر لیا جس نے جینی کے دل میں اس کے لیے نفرت کا بیج بویا اور یہ نفرت تمہاری پیدائش کے بعد مزید بڑھ گئی کیونکہ دانیال نے تمہیں بھی بچپن ہی میں مسلمان بنادیا۔ اس نے تمہارے کان میں اذان دی دانیال نے جینی کو چھوڑنے کی راز مکی دے دئے اسلام قبول کرنے کا کہا اور جینی نفرت عم اور غصے کی آگ میں جھلنے لگی مگر میرے کہنے پر اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تا کہ وہ تمہیں پاس کے اور پھر ہم نے دانیال سے ہیٹلی کا چھٹکا پانے کی سازش تیار کی جب تمہاری ماسی ماں کو اس کا پتا چلا تو اس نے ہمیں روکنا چاہا مگر ہم نے اس کی ایک نہی اور اس سے اپنے تمام ہوشے ختم کر دیے۔“



”بولو اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول

"کیا ہوا خیرن؟ سب ٹھیک تو ہے" دانیال نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔

"صاحب جی وہ بیہم صاحبہ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔" اس نے سرگوشیاں لہجے میں کہا۔
"غافلکے بارے میں؟" اس کو حیرت ہوئی۔

"جی، صاحب جی! میں کل بازار سے سونالے کرتا رہی تھی تو میں نے بی بی کو چرچ سے نکلنے دیکھا وہ گھر پر درگاہ کا کپڑا کر جاتی ہیں اور حقیقت میں درگاہ نہیں جاتیں اور روزانہ رات میں جو چائے وہ آپ کے لیے بناتی ہیں اس میں بھی وہ کچھ ڈالتی ہیں۔ میں نے چھپ کر انہیں یہ سب کرتے دیکھا ہے۔ صاحب جی! بی بی جی حقیقت میں نہیں بی بی ہیں صرف ظاہری طور پر بدلی ہیں۔" وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔

"خیرن! تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وہ اس گھر کی مالک ہے۔" دانیال بے خوف لہجے میں بولا۔

"مجھے معلوم تھا صاحب جی! آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اس لیے ہم یہ لے کر آئے ہیں۔" اس نے دوپٹے میں چھپائی ہوئی بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھی۔

"بی بی! جی! اس بوتل میں سے کچھ ڈالتی ہیں صاحب جی! ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔" دانیال نے حیرت سے اس بوتل کو دیکھا اور کانٹے ہاتھوں سے پکڑا اس پر لکھا تھا "سلو پوائزن" دانیال کے قدموں سے زمین نکل گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیا عاتکہ ایسا کر سکتی تھی۔ وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی ہے اس کے سونے بچھنے کی صلاحیت ختم ہوئی تھی۔ آنکھوں کے آگے ایک بار پھر اندھیرا چھایا اور وہ ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔



"بی بی! بہت لو ہے ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ آپ کا میجر بھی آیا تھا کچھ ہیرا سائن کروائے۔"

ہیں۔" وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے جینی کی آواز سنائی دی وہ حیرت زدہ رہ گیا۔

"کہیں یہ میرا ذہن تو نہیں۔" اس نے سوچتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے وہ تقریباً پندرہ دن بعد گھر آیا تھا۔ اپنی کاروباری مصروفیت کے سبب وہ اکثر گھر سے اتنے لمبے عرصے کے لیے باہر رہتا تھا۔ اس نے جینی کے روم کا رخ کیا آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھا تھا جینی نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور دوپٹہ بھی سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا ورنہ عام طور پر وہ ٹونگ فراک یا پینٹ شرٹ پہنتا کرتی تھی۔

"آپ آگے ناہیل!" وہ اذان کو گود میں اٹھائے اس کی طرف بڑھی۔ "کہہ ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟" اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔

"تم ابھی اذان سے کیا کہہ رہی تھیں؟" دانیال نے پوچھا۔

"میں نے اسلام قبول کر لیا ہے دانیال! میرا نام عاتکہ ہے۔" اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دانیال کی نگاہوں میں خوشی اور حیرت کے اعلیٰ جے تاثرات ابھرنے لگے۔ جینی کے مسلمان ہونے سے دانیال بہت خوش تھا۔

زندگی میں جیسے بہاریں ہی بہا رہیں آگئی تھیں۔ اذان اب قدم اٹھانے لگا تھا۔ اسے ہنستا گھلتا چلتا پھر تادیکھ کر دانیال کا سیروں خون بڑھتا مگر نہ جانے کیوں پچھلے کچھ مہینوں سے اس کی طبیعت نامسا ز رہنے لگی تھی۔ وہ بو جھل اور تھکا تھکا محسوس کرنے لگا تھا اکثر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا۔ عاتکہ اسے ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن باقاعدگی سے کھلاتی تھی مگر طبیعت میں کچھ بہتری نہ ہوتی۔

ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے وہ کبھی نہیں گیا تھا اذان کو گود میں اٹھائے اس سے باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

دانیال صاحب! اس نے پلٹ کر دیکھا۔

READING SECTION

”وہ بھی تو اسی طرح ہلکے ہلکے کر رہے تھے اور میں نے کتنی کم طرفی اور احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا تھا؟ انہیں چھوڑ کر اس عورت کو اپنا لیا جو آج میری جان لینے کے روپے ہے۔ جو مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے کہ میرا وجود سے اس گھر میں بھی برداشت نہیں لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا میں نے بھی تو یہی کیا تھا ان کے ساتھ انہیں جیتے جی مار دیا تھا۔ ماں باپ مجھے معاف کر دیجیے..... معاف کر دیجیے۔“ وہ تڑپ تڑپ کر رہا تھا مگر آج اس کے نوصاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔

ہوش میں آتے ہی جیننی نے اسے بتانا شروع کیا مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔

”کیا ہوا دانیال! آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟“ وہ کھڑکیوں پر پوسے ڈالتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔

”آج اماں لبا بہت یاد آ رہے ہیں! پتا نہیں کیوں۔“

اس کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔

”دانیال! میں اور اذان ہیں ماں آپ کے پاس آپ خوش رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جلد ٹھیک ہو جائیں۔“ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دانیال صرف سر ہلا کر کہہ گیا۔

ایک مہینہ ہو چکا تھا اسے بیمار ہونے۔ اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کیمبل کے اندر لینا نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں بھی نمایاں ہو گئی تھیں۔ آنکھیں اندر کو دھنس گئیں سر کے بال بھی اتر گئے ہونٹوں کا رنگ سیاہ اور جلد سبز گئی۔

دونوں گزر گئے تھے مگر اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا اس دفعہ تو اس سے اٹھنا بھی مشکل تھا۔ ڈاکٹر آیا چیک کرنے دوایں چیخ کیس اور چلا گیا۔

”عائشہ! دونوں ہو گئے میں نے اذان کو نہیں دیکھا پلیز ایک اذان سے لے آؤ۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔“ اس کے لہجے میں التجا تھی۔

”خیرن! میرے بیٹے کا خیال رکھنا اسے میرے دین کے بارے میں ضرور بتانا اسے بتانا کہ وہ ایک مسلمان ہے لیکن میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر پاؤ گی مگر پھر بھی ممکن ہو سکے تو میری بیٹی اذنی اسے دینا۔“ اس نے نیچے کے نیچے رکھی ایک ڈائری نکالی۔

”دانیال! وہ آپ کو تنگ کرے گا اور ڈاکٹر مسلسل آپ کا آرام کا کہہ رہے ہیں ایک ہار ٹھیک ہو جائیں پھر توبہ جی بھر کر کھیلنا اذان کے ساتھ۔“ اس نے الماری میں کپڑے جھانکتے ہوئے کہا۔

”میں اب ٹھیک نہیں ہوں گا عائشہ! مجھے معلوم ہے۔“

دانیال نے مایوس ہو کر کہا۔

”صاحب جی! میں نے آپ سے کہا تھا ماں مگر آپ نے میرا یقین نہ کیا۔“ وہ رونے لگی۔

”آ..... آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟“ وہ یک دم بوکھا گئی۔

”نہیں خیرن! اس میں جیننی کا کوئی قصور نہیں یہ میری سزا ہے۔ میں نے جو کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیابانی کا پھل ہے۔ بس وہ سب مجھے معاف کر دیں اور میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔“ خیرن کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔

”بی بی جی! اذان بابا سیرھیوں سے گر گئے ہیں۔“ باہر سے خیرن کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔

”تم یہاں کیا کر رہی ہوؤں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔“ جیننی اندر داخل ہوتے ہی دھاڑی اور خیرن جلدی سے ڈائری اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔

”عائشہ! کو مجھے بھی لے چلو..... عائشہ! دانیال! نیچے سے چھتارہ گیا۔ کمزوری کے باعث اس سے چھانٹی نہیں جا رہا تھا۔“ مجھے میرے بیٹے سے ہدامت کرو جیننی! میں مہربانوں گا۔“ وہ اپنی سب سے بڑی پرور پڑا سے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔



READING
Section

ضرور جانے گا کہ وہ کون ہے؟ اس کا اصل دین کیا ہے؟ وہ اپنی حقیقت سے دور نہیں رہ پائے گا میری آواز ہمیشہ اس کے کانوں میں گونجتی رہے گی ان شاہد اللہ۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پر وہ رہنمائی کرے گا اس کی وہ ذریعہ بنائے گا کسی کو اس کی ہدایت کا۔“ اس نے بے عزم لہجے میں کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا پیٹرول چھڑک کر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا کھڑکی میں سے ماچس کی تلی جلا کر اندر جھینگی کمرے نے فوراً ہی آگ پکڑ لی دانیال کی جینس پورے گھر میں گونج رہی تھیں مگر ان کے سفاک دلوں کو کچھ نہ ہوا تھا۔



جان کی آنکھیں آنسوؤں کے سبب دھندلا گئی تھیں اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو شوٹ کر لے۔ ظلم کی یہ داستان اس کی وجہ سے ہی تو رقم کی گئی۔ وہ ہی تو سبب تھا اس کا دل پھٹنے لگا اس کی برعاشت جواب دے گئی وہ اٹھ کھڑا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

”خان! کہیں جا رہے ہو؟“ میری بات سنو۔ وہ دھیل چیر چلا کر اس کے پیچھے آئے مگر وہ ان کی کھلی سے بہت دور نکل گیا تھا اس نے کارنہر کے کنارے روکی اور اتار کر بہت تیز تیز چلا نا شروع کر دیا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر منظر کو نوچ لے آج اس عورت کی حقیقت اس کے سامنے آتی تھی جسے وہ دنیا کی عظیم عورت مانتا تھا وہ زمین پر بیٹھا اور پاٹلوں کی طرح گھاس نوچنے لگا اور مرد کے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے تقریباً سب ہی اسے جانتے تھے وہ اچانک ہی زمین سے اٹھا اور پھر نہر میں چھلانگ لگادی نہر کا پانی بہت گہرا تھا۔ دوڑکوں نے اس کے پیچھے چھلانگ لگالی اور اسے ڈوبنے سے بچایا جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی خالہ کے گھر تھا اس کا کزن اسے وہاں لایا تھا۔

”کیوں بچایا مجھے..... میں مینا نہیں چاہتا..... مر جانا چاہتا ہوں میں۔ میرا دل پھٹ رہا ہے یہ سوج سوج کر کہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے اپنے ہاتھوں اپنا

طرح گزرا رہا تھا۔“ بند کر اپنی بکواس..... میرا نام جینی ہے اتنے مہنوں سے یہ منجھو نام کن کن کر میرے تو کان ہی پک گئے ہیں اور وہ صرف میرا بیٹا ہے اب اس کا نام اذان نکس جان ہے اور یاد رکھو یہ بات کہ وہ اپنی ماں کے دین پر چلے گا۔ تمہارا دین تو بہت دور تمہارا نام بھی گئی نہیں جانے گا وہ۔“ آج وہ محل کر رہتا گئی تھی۔

”یہ تو بہت جا بجا ہے جینی اتنے نام سے سے نہ ہر وہ جا رہا ہے مگر اب تک زندہ ہے۔“ جینی کے فائدہ بولے۔

”میرا دم میرے بیٹے میں اٹکا ہے ایک بار اس سے طواغی میں خود بخود مر جاؤں گا۔“ وہ تڑپ کر بولا۔

”تمہارے اس اٹکے ہوئے دم کو ہم خود آزادی دے دیں گے تم لگزنہ کرو باہا فائر بریگیڈ کو فون تو کر دیا ہوں۔“ آخر چوہان ہاؤس کے مالک کے کمرے میں آگ لگی ہے اسے وکی تو بھجانے آئے گا۔“ جینی بے حد بے رحمی سے بولی۔

”آگ.....؟“ دانیال نے نم لہجے میں پوچھا۔

”ہاں میرے پیارے شوہر..... تمہارے اس کمرے میں آگ لگنے والی ہے اگلے کچھ لمحوں میں۔ اے تم تو حیران ہو۔ ہے ہو گے کہ ہمیں کیسے پتا؟“ اس کا لہجہ اب بھی بے رحم تھا۔ ”کیونکہ وہ آگ ہم ہی لگانے والے ہیں۔“ اس نے ایک بلند قہقہہ لگایا۔

”مگر تو ویسے ہی مر رہا ہوں مجھے اس طرح تڑپا تڑپا کر مت مارو پلیز انکل پلیز آئی میں.....“ وہ گزرتا لگا۔

”جینی دانیال! میں تمہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گی تم جو بیادھو کے باز انسان یہی ڈیرہ کرتا ہے۔“ جینی نے نفرت سے کہا اور پھر اپنے ماں باپ کو اشارہ کیا انہوں نے پیٹرول کا گیلن کھول کر پیٹرول اور مرد اور بیڈ پر چھڑکنا شروع کر دیا۔

”میرا رب گواہ ہے جینی اس سب کا وہ خود انصاف کرے آتم چاہ کر بھی سچ کو چھپا نہیں سکوگی۔ میرے مر جانے سے تمہارا اصل چہرہ نہیں چھپ پائے گا۔ میرا بیٹا

READING
Section

مگر جاہ کیا کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیا قصور تھا میرے بابا کا؟ میں انہیں بھی معاف نہیں کروں گا وہ میری ماں کہلانے کے لائق نہیں بہرگز نہیں۔ وہ بڑی طرح تڑپ رہا تھا اس کی ہاسی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔

”بس میرے بچے بس..... صبر کرو..... جان! صبر کرو۔“ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اسے سکون دیا اور انکیشن دیا تو وہ چند لمحوں بعد بھرے سدھ ہو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کی حالت کسی حد تک بہتر تھی۔

”بہت سنبھایا تھا میں نے انہیں لیکن ان تینوں نے میری ایک نہیں سنی ان پر صرف بدلے کا بھوت سوار تھا۔“ انہوں نے فحشوں سے کہا۔

”انہوں نے جن کیا سو کیا لیکن اب جو میں کروں گا وہ جینی ڈسٹا کو آخری سانس تک بھگتتا بڑے گا۔“ اس نے نفرت سے ہنسنے لگے میں کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔

”تم آئی کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اسے چائی سے ہارنا پڑتا ہے۔“ انہوں نے جان کو جاتا دیکھ کر سوچا۔

”خیرن بی..... خیرن بی.....“ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی بہت تیز آواز میں پکارا۔

”صاحب الماں آیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ آج نہیں آئیں۔ سرورن کو دفتر میں ہی ہیں۔“ خیرن بی کی بیٹی نے کہا وہ لے قدم باہر لگا اور سرورن کو دفتر کی طرف بڑھ گیا۔

”خیرن بی..... ٹھیکہ ڈائری ویں جو میرے بلانے مرتے وقت آپ کو دی تھی۔“ اس نے بہت تیز لہجے میں کہا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔

”میں نے کچھ کہا ہے آپ سے؟“ اس نے سخت لہجے میں کہا انہوں نے دیکھا اس کی آنکھیں غم کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں مگر وہ بیٹا کسی سوال کے اپنی اناری کی طرف بڑھ نہیں اور کپڑوں کے نیچے رکھی ایک بلیک رنگ کی ڈائری اٹھا کر لے تیں۔

اسی نے بہت جاہا صاحب آپ کو یاد دینا مگر بی بی مجھے مکمل دی گئی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو

وہ میری بیٹی کو..... بس اسی خوف سے میں کبھی کبھی نہ بول پائی۔ بڑے صاحب کے گل میں پولیس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اس لیے میں نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ وہ ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائری پکڑی۔

”آپ کو کس نے بتایا صاحب؟“ انہوں نے پھر کہا مگر وہ ناکوئی جواب دینے ان کے کمرے سے نکل گیا۔

گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کچھ آوازیں سنی تھیں وہ دونوں بعد گھر آئیں پر کسی ٹیبل پر رکھ کر وہ آگے بڑھیں آواز اور پر رابا داری سے آ رہی تھی ان کا ہاتھ ٹھکا وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ جان سب کچھ جان چکا ہے وہ تیز زانی سے بیڑھیاں چڑھتی اور پر تھیں ایک ملازم تنخواڑا لیے دانیال کے کمرے کے تالے پر ضرب لگا رہا تھا اور جان سینے پر ہاتھ باندھتا دیکھ رہا تھا۔

”یہ کیا ہو رہا ہے جان؟“ وہ پوری قوت سے چلا تھیں اور تیز قدم اٹھالی وہاں تک پہنچی تھیں۔ ان کی آواز پر ملازم رک رک جان کو دیکھنے لگا۔

”تم اپنا کام کرو۔“ جان نے کرخت لہجے میں کہا۔

”یہ کیا بد تیزی ہے جان! تم میری بات کی مخالفت کر رہے ہو میں نے تمہیں اس کمرے سے دلا رہنے کے لیے کہا ہے اور تم.....“

”تا کہ آپ کی اصلیت مجھ سے چھپی رہے ہے ماں مس جینی ڈسوز“ جان نے ان کی بات کانٹے ہوئے نفرت سے بھر پور لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔

”گگ..... کون سی اصلیت؟“ وہ بڑی طرح ہکلا تھیں۔

”وہی اصلیت جو بائیس سال سے آپ نے چھپائی۔ دانیال افتخار چوہدری کی اصلیت.....“ اس کے ہجے کی کڑواہٹ ان کا خون خشک کر گئی تھی اور آواز مکمل چکا تھا

جان انہیں سناکت حالت میں کھڑا چھوڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا اور خود ان کے ذہن میں ایک ہی سوچ گردش کرنے لگا گی کہ شاید وہ اب اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔



کمرے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو چلنے سے بچ گیا ہو، کچھ چیزیں کھل طور پر جل چکی تھیں اور کچھ ادھ جلی اور ادھر ادھر پڑی تھیں، کمرے میں ہر جگہ بڑے بڑے جالے لگے تھے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے اپنے کانوں میں وہ دل خراش چیخیں سنائی دے رہی تھیں، آج وہ کچھ رہا تھا اس کمرے سے آنے والی آوازوں کی وجہ کوئی اتنا سخت دل پیسے ہو سکتا ہے اسے ایک بار پھر غم کا دورہ پڑنے لگا اس کا دل جا ہا کہ ہر شے کو توڑ دینے کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہ رہے تھے اس نے ادھ جلی الماری کی طرف اندر بڑھائے اس میں موجود تقریباً تمام چیزیں جل چکی تھیں مگر اس نے دیکھا ایک گہرے ہرے رنگ کے کپڑے، اس میں کوئی کتاب بندھی رکھی گئی آگ اور مٹی سے محفوظ تھی اس نے کپڑے میں بندھی ہوئی وہ چیز اٹھائی اس کے نیچے بھی اسے کچھ نظر آیا شاید وہ کوئی تصویر بھی اس نے اٹھائی، دیکھا تصویر کچھ دھندلائی ہوئی تھی اس نے تصویر کو صاف کیا ایک شخص اسے ہو بہو اپنے جیسا لگا وہ یقیناً اس کے باپ تھے۔ ان کے ساتھ ایک ہاتھار ضعیف اور آدی تھا اور ایک خاتون بھی۔ خاتون کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اس لڑکی کے خندہ خال اسے کچھ واقف محسوس ہوا ہے۔

”کہاں ادیکھا ہے میں نے یہ چہرہ....“ وہ سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔

”یہ تصویر تو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے پھر کہاں مل سکتا ہوں میں اس لڑکی سے اور بیک تو یہ لڑکی ایک خاتون بن چکی ہوگی۔“ اس کے ذہن میں ایک تمہا کا سا ہوا۔

”ہاں بہت شخصہ ہے اندھا جانا میری بیٹی کا نام حالیا نہ ملتا ہے۔“ وہ بات اس کے ذہن میں گھوم کر رہ گئی جب وہ

عبدال کے ساتھ بیروہ کے گھر گیا تھا۔
 ”ادھ ہائی گاڈ.....“ حیرت کے سبب اس کے منہ سے نکلا۔ ”اگر یہ لڑکی جیمرہ کی مدد میں تو ان کا میرے بابا سے کیا رشتا ہے؟“ اس کا ذہن الجھا۔ ”اس کا جواب خیرن ہی دے سکتی ہیں۔“ وہ تصویر اور ہرے کپڑے میں بندھی وہ چیز لیے خیرن بی کے پاس پہنچا وہ تصویر دیکھ کر خیرن بی نے جو شہ تپایا اس نے جان کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیمرہ کی ماما اس کے بابا کی بہن تھیں۔ وہ گھر سے باہر جانے والی سیزھوں پر آیا بیٹھا۔

”قدرت بھی کیا راز انسان پر کھولتی ہے کہ وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہتا۔ میں بھی آج کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا اگر وہ میرے اتنے قریبی رشتوں میں سے ایک بھی تو پھر یہ بات مجھے ان کے جانے کے بغیر کیوں بتا چلی؟ اگر مجھے یہ بات پہلے بتا چلی تو میں کبھی بھی اسے جانے نہ دیتا۔“ اس نے حسرت سے سوچا اور پھر اٹھنے لگا، بھی اس کی نظر ہاتھوں میں موجود ہرے کپڑے میں بندھی اس چیز پر پڑی اس نے وہ کپڑا کھولا اندر سے بلیک رنگ کی ایک کتاب نکلی جس کے فرنت کور پر گولڈن رنگ سے چاروں طرف باؤنڈری بنی تھی گولڈن رنگ کے پھول بنے تھے جن میں مختلف رنگ کے گولڈن رنگ سے بنی پھولوں کے درمیان کچھ لکھا تھا مگر زبان جان کی سمجھ سے ہلا تھی اس نے کتاب کھول کر دیکھا تو پہلے ہی صفحے پر اردو میں لکھا تھا۔

”قرآن کریم۔“ یہ نام پڑھ کر جان کو ایک جھٹکا لگا یہ نام اس نے جیمرہ کے منہ سے کئی بار سنا تھا مگر وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا یہ وہ عظیم کتاب تھی جو جیمرہ کو حرف بہ حرف یاد تھی۔ نہ جانے کیا رعب تھا اس کتاب میں جان کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے وہ کتاب دوبارہ اسی ہرے کپڑے میں لپیٹ دی وہ کتاب یقیناً بہت باہر کت جلال و قدرت اور رعب والی کتاب تھی۔ اسی لیے وہ اسے مزید نہیں دیکھ پایا تھا اور نہ ہی خود کو اسے چھونے کے لائق سمجھ رہا تھا۔

READING
Section

ہا ہا کی دُجھ ہو گئی ہے۔“ ملازمہ نے اندر داخل ہوتے

”جان امیرا یقین کر ڈ میں نے جو کچھ کیا صرف ہونے کہا۔
تمہارے لیے کیا تمہیں پانے کے لیے۔“ وہ اچانک
ہی اس کے کمرے میں آ کر بولنا شروع ہو گئیں۔ جان
اس وقت اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف
تھا اس نے ان کی بات نظر انداز کر دی اور اپنے کام
میں مصروف رہا۔

”جان امیر تم سے بات کر رہی ہوں۔“ انہوں نے
اس کا بازو پکڑا اور جان نے ایک سرد نگاہ ان کے ہاتھ پر
ڈالی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر انہوں نے ہاتھ پیچھے
کر لیا اور وہ ایک بار پھر کچھ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔
انہوں نے دیکھا اگے لہجے ہی اس کے ہاتھ میں کسی کا
ورڈینگ کارڈ تھا۔

”جان ایک بار میری بات تو سن لو۔“ انہوں نے ایک
بار پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر
جان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔
”نفرت ہے مجھے آپ سے گھن آتی ہے آپ سے۔
میں آپ کو اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں میں
صرف اور صرف دنیا میں انکار چوہدری کا بیٹا ہوں۔ اس
انسان کا جس کی محبت کا خون کیا آپ نے۔ وہ انسان جو یہ
جانتا تھا کہ آپ اسے سزا دے رہی ہیں مگر پھر بھی اس نے
وہ زہریلا کیونکہ وہ خود کو مراد بنا چاہتے تھے کہ انہوں نے
آپ جیسی عورت کے لیے اپنے محبت کرنے والے ماں
باپ کو چھوڑا۔“ جان نے انگلیاں اٹھکھوں سے کہا۔
”یہ جھوٹ ہے جان! تمہیں میرے خلاف بھڑکایا
جا رہا ہے۔“ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا۔
”یہ سچ ہے کس جینٹل ڈوسوزا کیونکہ یہ سب کچھ میرے
بابا نے اپنی اسٹیج زندگی کے آخری ایام میں اپنی اس ڈرامی
میں لکھا تھا اور مرنا ہوا آڈیاں مگی جھوٹ نہیں بولتا۔“ اس نے
ڈاڑھی ان کی نگاہوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا اور کچھ

”یہ ہمارا اپنے رب پر یقین ہے کہ ہم صرف اندازہ
لگاتے ہیں اور وہ ہمارے اندازوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ
عزوجل کی ذات ایک یقین ہے اس پر انسان جتنا زیادہ
یقین کرتا ہے اسے خود سے بہت قریب پاتا ہے۔“ ان کا
لہجہ بہت ٹھنڈا اور مغلط تھا۔

”آپ کی باتیں بالکل مجھ سے جیسی ہیں۔“ جان نے
مدھم لہجے میں کہا۔

”میری نہیں مجیرہ کی باتیں میری جیسی ہیں کیونکہ مجیرہ
میری اسٹوڈنٹ ہیں۔“ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
”آپ جانتے ہیں مجیرہ اور اس کی ٹیلی کے ساتھ جو
ہوا؟“ نہ جاننے کیوں اس نے یہ سوال کیا۔

”ہاں جان! مجھے معلوم ہے اور مجھے اس کا بہت دکھ
ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجیرہ کو اس کی اتنی
قرابانوں کا بہت بہترین انعام دے گا۔“ انہوں نے اسے
بغور دیکھتے ہوئے کہا اور وہ کچھ کھنکھنایا۔

”دیئے آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں اسلام
قبول کرنے؟“ انہوں نے بلا جھجک کہا اور وہ چند ٹاپے
اٹھیں دیکھا کہ ہاتھ کاٹھ پھرتا ہے۔

”نہیں..... کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام اوزان
ہے۔“ اس کی یہ بات انہیں چونکا گئی۔

”نہیں..... کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام اوزان
ہے۔“ اس کی یہ بات انہیں چونکا گئی۔

سے کہتے چلے گئے اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں۔ انہوں نے پہلا کلمہ پڑھنا شروع کیا اور جان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں پڑھا اس نے پڑھنے میں کوئی وقت محسوس نہیں کی کیونکہ یہ کلمہ کئی بار وہ خواب میں مجیرہ کے ساتھ دہرا چکا تھا اور اس وقت بھی پڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں مجیرہ کی آواز گونجی مگر اس نے نظر انداز کر دی اس کی آواز وہ شرک سے محفوظ رہتا چاہتا تھا اور یقیناً کہیں نہ کہیں مجیرہ کی محبت اسے شرک محسوس ہوئی تھی اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔

”مجھے بہت سکون مل رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہر خواب کو تعبیر مل گئی ہو جن میں میں نے خود کو اندھیروں اور انوروں اور دلہنوں میں پایا اور پھر نور کی ایک روشنی کو اپنا بننا پایا۔ کیا میں اندھیروں میں تھا اب تک؟ ہاں یقیناً.....“ وہ بے خود ہو کر کہہ رہا تھا وہ مسکرا دیتے۔

”آپ اپنا نام اذان ہی رکھنا چاہیں گے؟“ انہوں نے متحیر لہجے میں پوچھا اور وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔

”مجھے احمد نام بہت پسند ہے اس کے معنی ہیں سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔“ اسے مجیرہ کا ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جانے والا جملہ یاد آیا۔

”کیا میرا نام احمد اذان ہو سکتا ہے؟“ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔

”کیوں نہیں بہت خوب صورت امتزاج ہے تو آج سے آپ احمد اذان ہیں احمد.....“ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیا۔



صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور سے تین بار یہ یقین کرنے کے لیے کہیں وہ بھول تو نہیں گیا مگر اسے یاد تھا اس نے نہانے کے دوران بھی کلمہ پڑھا اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو اس طرح رگڑ رگڑ کر دھویا جیسے وہ پانی کے ساتھ جسم کا میل ہی نہیں بلکہ شرک اور گناہوں کی گندگی کو بھی دور کر رہا ہوتا آج

”مسلمان.....؟ اس دن جب میں نے آپ سے کہا تھا تو آپ کو بہت غصہ آیا تھا۔“ انہوں نے نہ بچھنے والے لہجے میں کہا۔

”کیونکہ اس دن مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں۔“ جان نے اسی طرح کہا۔

”کیا مطلب؟“ وہ حیرت زدہ رہ گئے اور جان نے کچھ سوچتے ہوئے دھیمے دھیمے انہیں سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس کے بات کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے۔

”بے شک آپ پیدائشی اور وراثتی طور پر مسلمان ہیں مگر عملی طور پر آپ اتنے سال سے عیسائی ہیں کہ آپ کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔“ انہوں نے توجیح پیش کی۔

”تو آپ کے مطابق مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے؟“ جان کا اندازہ والیہ تھا۔

”جی ہاں کیوں کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟“ انہوں نے جاننے والے لہجے میں کہا۔

”مجھے ڈر لگ رہا ہے مشرعی! کیونکہ میں نے مجیرہ سے کہا تھا کہ میں اس کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں تب مجیرہ نے مجھے دھوکے باز کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ اب مجیرہ کا رب بھی مجھے ہی نہ سمجھ بیٹھے حالانکہ اب میں مجیرہ کو پالنے کے ارادے سے اس دین میں داخل نہیں ہو رہا بلکہ اس آہستی کو بچھنے کے لیے اس دین کا حصہ بننا چاہتا ہوں جس سے مجیرہ بے حد محبت کرتی ہیں۔“ جان نے لپٹنے والے ہر بات ان سے بیان کر دی تھی۔

”تمہیں پتا ہے جان اللہ پاک بے نیاز ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ڈر پر ہی اس نے تمہیں بخش دیا ہوگا۔ تم اس کی لپٹنے بندے سے محبت کو کچھ نہیں پاؤ گے۔ وہ سزاؤں کے برابر اپنے ایک بندے سے پیدا کرتا ہے اور جب وہ تم سے اتنی محبت کرنا چاہتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی صرف اسی سے ایسی محبت کریں جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔“ وہ اختتامی جذب

READING
Section

”مناق کر رہے ہو ہیں ناں.....“ اس نے تصدیق چاہی تھی۔

”نہیں۔“ اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔



”اللہ پاک کی حمد و ثنا کا بیان اس کی مخلوق کے اختیار سے باہر ہے۔ خود اللہ پاک اپنے نور کا بیان اس طرح فرماتا ہے: ”اللہ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور ہدایت کی حالت عجیب ایسی ہے جیسے (فرض کر دو) ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے (نور) وہ چراغ ایک قندیل میں ہے (اور وہ قندیل طاق میں رکھا ہے اور) وہ قندیل ایسا (صاف شفاف) ہے جیسے ایک چمک دار ستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون (کا درخت) ہے جو (کسی آڑ کے) نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے خود خود جل اٹھے گا اور جب آگ بھی لگ گئی تب نور اٹلی نور ہے اور اللہ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

ان جملوں کے ساتھ پوری محفل سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی وہ سب سے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا مسٹر عباسی کے مگر شاید درس تھا وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے اور باقی تمام لوگ قائلین پر۔

”نور ہدایت۔“ وہ سوچنے لگا اسے ہر بار ایک نور دکھایا گیا وہ اس نور سے محروم نہیں رکھا گیا اور اس نور ہدایت کا ذریعہ دو لوگ بنے تھے ایک مجبرہ اور دوسرے اس کے باپ۔ اس دن اسپتال میں اس نے انہی کو تو دیکھا تھا خواب میں۔ وہی تو تھے جنہوں نے اسے اس

نہا کر اسے جو سکون ملا وہ شاید پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کلمہ اب بھی اس کے دل میں جاری تھا۔ اس نے اپنی الماری کھول کر اس میں رکھا قرآن پاک نکالا آج اس پاک کتاب کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ تسکین مل رہی تھی۔

”آج مجھے سمجھا گیا ہے مجبرہ! کسا آپ اتنی پُرسکون کیوں رہتی تھیں۔“ حقیقتاً دین کی جامعیت اس کا عمل ہونا آپ کو پُرسکون رکھتا تھا جیسے آج میں بھی بہت پُرسکون ہوں۔“ اس نے سوچتے ہوئے قرآن پاک کھولا اور اوراق کو بخور دیکھنے لگا گو کسا آج بھی وہ زبان سمجھنے سے قاصر تھا مگر آج اسے دیکھتے ہوئے اذان کو راحت مل رہی تھی۔

وہ جلد از جلد گھر چھوڑنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے خود پہلے کوئی جا ب تلاش کرنی تھی اسی لیے دو تین کمپنیز میں اس نے اپنی سی ڈی سینڈ کی تینوں سی جگہ سے اسے مثبت جواب ملا تھا۔ اس نے ایک رپورٹر کی حیثیت سے شہر کی مشہور ادارے کو جوائن کر لیا۔



وہ زندگی میں پہلی بار ایسے دوسرے آیا تھا جہاں وہ ہر اس آرام اور تسکین سے محروم ہو گیا تھا جو وہ آج تک دیکھا آیا تھا مگر وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ کمپنی کی طرف سے ملنے والا اپارٹمنٹ اس کے ساتھ تین اور لوگ شیئر کرتے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے لیے کھانا بھی پکاتا اور ہر کام کرتا تھا۔ رات وہ مجبرہ کی دی ہوئی کتاب پڑھتا گو کہ اس کتاب کو وہ کئی بار پڑھ چکا تھا۔

”اوان! تم اتنے لمبے ہی ہو مگر میں نے کبھی تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔“ آج ویک اینڈ ٹائٹ تھی اس کے تینوں کولیگز بھی گھر پر ہی تھے ان میں سے ایک نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔

”نماز.....؟“ اس نے نہ سوچ بچھے میں کہا۔


”ہاں کیوں تمہیں نماز نہیں پتا؟“ اس نے بڑے برسرے کہا۔

”نہیں.....“ اذان نے یک لفظی جواب دیا۔



و پیشانی کو زمین پر رگڑ کر (سجدہ) کیا جائے اور یہ تمام کام ایک ساجد کے فرائض ہیں اور بنیادی طور پر یہی نماز ہے۔ انہوں نے دھستے لہجے میں کہا۔


”نماز کے فرائض اس کے ظاہری ارکان ہیں اور باطنی ارکان نماز کی روح ہیں۔ یعنی جب انسان اپنے واحد و تانا رب کے دوبرو قیام میں ہو تو دل سے یہ تسلیم کرے کہ وہ عظیم الشان ہے اور ہم کچھ بھی نہیں۔ جب رکوع میں جھکے تو یہ احساس بندگی حادی ہو کہ ہم با اختیار نہیں حقیقی اختیار صرف رب کائنات کے پاس ہے اور وہ جیسے چاہے ہمیں جھکائے اور جب سجدہ میں جائے تو اس بات کو ذہن نشین کرے کہ ہم اسی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں اور ہمیں اس مٹی میں ملنا ہے۔ یہی ہماری حقیقت ہے جب ان جذبوں اور احساسات کے ساتھ انسان اپنے رب کے دوبرو جھکتا ہے تو وہ رب کائنات اسے اپنے مقرب اور صالح بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ ایک تسلسل سے کہتے چلے گئے اور اس کا دل ان کی ہر بات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا گیا۔



بہت جلد ہی اس نے نماز سکھ لی تھی اور دین اسلام کے دوسرے ارکان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں۔ مسٹر عباسی کی بدولت اسے ایسا اسلامک بکس پڑھنے کا موقع ملا جن کی وجہ سے اس کے ذہن کی تمام الجھنیں دور ہو گئی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ جس راستے پر تھا وہ ایک تاریک راستہ تھا ویسا ہی تاریک راستہ جس پر وہ خواب میں چلتا تھا۔ جس کے انتقام پر ایک جگہ گئی آتی تھی آج وہ اس جگہ گئی کا اور دل دل کا مطلب سمجھ گیا تھا۔

”جنم۔“

مسٹر عباسی کے پاس ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا تفسیر سمجھنا اور قرأت بھی سیکھنا شروع کیا تھا ایک سال گزر چکا تھا اس دوران کئی بار اس کی ملاقات عدیل سے ہوئی تھی عدیل اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش تھا۔



دل دل سے نکلا تھا اس کے قلب کو یاد دلا یا تھا کردہ حقیقت ایک مسلمان کا دل ہے۔

”اسلام علیکم اذان!“ مسٹر عباسی کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ محفل برخواست ہو گئی تھی اور لوگ جا چکے تھے۔

”علیکم السلام۔“ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھے ہوئے کہا۔

”غیریت ایک مہینہ بعد آپ کو ہم کیسے یاد آگئے؟“ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں۔“ اس نے بلا توقف کہا۔

”اچھی بات ہے لیکن نماز سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ آخر کیوں نماز پڑھتا ہے اللہ کا بندہ؟ اور کیوں اسے ارکان اسلام میں دوسری بڑی حیثیت دی گئی ہے؟“ وہ ایک تسلسل سے بول رہے تھے۔

”مجھے نہیں معلوم شاید ثواب کے لیے۔“ اس نے صاف گوئی سے کہا۔

”ثواب کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہو تو بھی ثواب ملے گا۔ راستے سے پھر ہٹاؤ تو بھی ثواب ملے گا فرض یہ کہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے ثواب ملے گا تو پھر آخر نماز کی ضرورت کیوں ہے؟“ انہوں نے اس کی توجیہ کو غلط قرار دیا اب ان کی باروہ خاموش رہا۔

”اذان! نماز کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کو (جس کو سجدہ کیا جائے) کون ہے اور ساجد کون؟ مہجور کے کیا حقوق ہیں اور ساجد کے کیا فرض؟“ انہوں نے نرمی سے کہا۔

”مہجور صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ عزوجل ہے جب کہ ساجد ہم سب ہیں جو اسے مانتے ہیں۔ مہجور کا یہ حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے اس کے آگے جھکا جائے اس سے اپنی محبت کا اظہار بہت تابعداری سے کرے ہو کر (قیام) گھٹنوں پر جھک کر (رکوع) اور تاک

READING
Section

”وہاں ایک عورت بیٹھی تھی ہم اس سے بھی پوچھیں اس کی داستان۔“ کسمرہ مین نے اس کی توجہ دلائی اس نے پلٹ کے دیکھا۔

”ہاں چلو۔“ انہوں نے پیش قدمی کی۔
 ”اسلام علیکم ماں جی!“ اس نے قریب پہنچ کر کہا۔
 اس عورت نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ یکدم خاموش ہو گیا۔
 ”کیا ہوا سر؟“ کسمرہ مین نے اسے مخاطب کیا۔
 ”کسمرہ بند کرو۔“ اس کا لہجہ ڈبا ڈبا تھا۔
 ”کیا؟“ کسمرہ مین نے حیرت سے کہا۔
 ”کسمرہ آف کرو۔“ اس کا انداز سخت تھا۔ کسمرہ مین پیچھے ہٹ گیا وہ اسے پہچان سکی تھیں۔

”جان..... تم..... میری بیوی.....“ وہ رونے لگی تھیں۔
 ”میں اب جان نہیں ہوں آنٹی! میرا نام اذان ہے اذان دانیال۔ میں دانیال انخار چوہدری کا بیٹا ہوں آپ کے بھائی کا بیٹا۔“ اس نے ان کے برابر بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔
 ”تم دانیال بھائی کے بیٹے ہو؟“ ان کے لہجے میں حیرت و رنجش تھی۔ ”میرے دل نے کہا تھا اس رات کہ تم دانیال بھائی کے بیٹے ہی ہو گے یقیناً تمہارا چہرہ تمہاری آواز ہر انداز دانیال بھائی جیسا ہی ہے۔ میں چونکی تھی مگر کہہ نہ سکا پائی تھی۔“ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ اسی دن انہیں اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے آیا جو اسے پردھون کے طور پر اس کے ادارے کی طرف سے مل تھا اور ساتھ ہی ایک خوب اثرگذار کار بھی۔ اس نے انہیں سب کچھ بتایا دانیال کے بارے میں بھی اور چینی کے بارے میں بھی اور بیوی کے بارے میں پوچھنے پر اس نے اس رات اپنے اور بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں اور پھر بیوی کے کلاہا ہو جانے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔

.....
 اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے ادارے نے اس کی کراچی برانچ میں پوسٹنگ کر دی تھی اور کراچی آ کر اس

”اذان! آج تمہیں ایک اہم رپورٹنگ کے لیے جانا ہے جہاں کوئی کارڈیولنگ ہو گیا ہے تمہیں اس کی مالکن سے ملنا ہے اور اس کی وجہ پوچھنی ہے اور اترو لو کرنا ہے۔“ اس کے منہ نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا وہ کچھ لمحے پہل نہیں پایا۔

”سر! میں وہاں نہیں جا سکتوں گا آپ کسی اور کو بھیج دیں۔“ اس کا درماں ماڈرن سا ہونے لگا۔
 ”کیا مطلب نہیں جاسکتے؟“ منیجر نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ ”پھر خا“ وہ سن ہو گیا۔

”اذان! کیا بات ہے آج تک تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا پھر آج..... کوئی پرابلم ہے؟“ منیجر نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔

”ایک پرسنل میٹیر ہے سر! آپ کیسے کو بھیج دیں۔“ اس نے بہانہ بنایا اور منیجر نے مزید کچھ نہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ وہاں سے نکل کر اس نے سب سے پہلے ماسی ماں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ چینی کو اپنے پاس رکھیں اور چینی کے تمام اخراجات کی ذمہ داری وہ خود اٹھائے گا۔

دن رات یونٹی گزار رہے تھے قرآن پاک کھل کرنے کے بعد اب وہ حفظ بہ کار بند ہو چکا تھا۔ مسٹر عباسی اسے مختلف مغللوں میں بھی لے جاتے اور ان کے ساتھ ہی وہ پہلی بار جج پر بھی گیا۔ دل کی کیفیات اس پاک دربار میں پہنچ کر قابل بیان ہو گئی تھیں اس کی آنکھوں سے آنسو لہو بھر بھی خشک نہ ہوئے تھے سر شرمندگی اور ندامت کے احساس سے چھٹکا جا رہا تھا کیا وہ اس لائق تھا کہ یہاں کھڑا ہوتا کیا اس کا گزشتہ ہر گناہ معاف کر دیا گیا اس نے پایا کی اور بیوی کی طرف سے حج کیا اور بابا کی مغفرت اور بیوی کی سلاستی کی دعا میر بھی مانی تھیں۔

.....

آج مدرڈے تھا اور اسے کورج کے لیے اولڈ ہوم جانا تھا وہاں پہنچ کر اس نے انٹرویوز لینے ہر ایک کی اپنی دکھ بھری داستان تھی۔ سے دکھ ہو رہا تھا لوگوں کی سفاکی پڑنے کے بعد ہم بھی ہو سکتی ہے۔

”وہیکم اسلام! ان دونوں نے مسکرا کر جواب دیا۔
”آپ کی طبیعت کیسی ہے؟“ طوبی نے ان کے برابر
بیٹھے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔

”اب تو بالکل ٹھیک ہے۔“ انہوں نے شفقت سے
اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔
”پلیز آپ روئیں مت مجھے دکھ ہوتا ہے اور شرمندگی
بھی کہ آپ کو میں پہچان نہیں پارہی۔“ اس کے لہجے میں
شرمندگی تھی۔

”ارے نہیں بیٹا! یہ تو خوشی کے آنسو ہیں تم اتنی اچھی
جگہ ہو تمہیں خوش دیکھ کر میرے دل کی وہ بے چینی اور
خوف دور ہو گیا بس جلد تمہیں ان کے روپ میں دیکھ لوں
تو دل ہر فکر سے آزاد ہو جائے گا۔“ انہوں نے وضاحت
پیش کی اور وہ مسکرا کر رہ گئیں۔

”وائٹ کاشن کا سوٹ گرین اور بلو کراپٹا اور پشاوری
بینڈن! کیا بات ہے جناب! کہاں کی تیرکی ہے؟“
کاشان نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔
”یہ پٹکا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔“ چچھو سما
لگ رہا ہے۔“ اس نے تائینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔

”چچھو نہیں! انسانوں والا لگ رہا ہے۔ ویسے جا
کہاں رہے ہو؟“ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔
”میں نے زبردستی پہنا دیا میں نے منع بھی کیا تھا۔“ وہ
اپنی ہی کہتے ہوئے کاشان کی بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔

”ارے یار اتنے ہینڈم لگ رہے ہو محفل کی لڑکیاں تو
تمہارے ہی چیمے ہوں گی۔“ اس نے بلا جھجک تبصرہ کیا اور
تو اذان نے گھور کر اسے دیکھا۔

”اچھا بابا سوری! مذاق کر رہا تھا ویسے اب تو تارو جا
کہاں رہے ہو؟“ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ اذان نے
ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور دوپٹا بیڈ کی طرف
اچھا تالماری کی طرف بڑھا اور تالماری میں سے ایک بلیک
رنگ کی شان نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔

”ہوں اب لگ رہا ہوں میں اچھا اذان!“ اس نے

نے سب سے پہلے عیبرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر
کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے خود کو مزید مصروف کرنے کے
لیے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی مجل لائیو
کیا جو چند مہینوں میں ہی بہت کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت کم
وقت میں وہ شہرت کی بلند یوں کو چھونے لگا تھا مگر جس
قدرت شہرت اسے ملی تھی اس کے انداز میں اتنی ہی سادگی
اور عجز آ گیا تھا۔ وہ..... اب وہ انسان نہ رہا جسے اللہ کی
محبت کا علم نہ تھا آج وہ اپنے ہر سوال کا جواب جان چکا تھا
آج اسلام کو لے کر اس کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ
رہی تھی وہ ایک مکمل صالح مسلمان بن گیا تھا۔

”ہم آپ کی بیٹی کو لینے نہیں صرف ملنے آنے
ہیں آپ بے فکر رہیں مزیارین!“ وہ کچھ لحاظ قبل
ہی اپنی اماں کے ساتھ طوبی کے گھر آیا تھا۔ وہ طوبی
سے ملنا چاہتا تھا۔

”نہیں نہیں بیٹا! ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو خود
آنے والی تھی آپ دونوں کو طوبی کی شادی کے لیے
مدعو کرنے آئیے بیٹھے۔“ انہوں نے لاؤنج میں رکھے
صوفوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ملازم سے طوبی کو
بلانے کے لیے کہا۔

”کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طوبی بتا رہی تھی کہ آپ
کی طبیعت خوب نہیں تھی۔“ وہ اب اذان کی اماں سے
مخاطب تھیں۔

”ہاں اب تو بہتر ہے۔ عالیانہ کی شادی طے ہو گئی
ہے؟“ انہوں نے سوالیہ لہجے میں کہا۔

”ہاں! طوبی کے بابا کے دوست کا بیٹا ہے۔ چھین سے
دیکھا بھلا ہے! مجھے لوگ ہیں آپ شادی میں ضرور آئیے گا
میں ان سے طواؤں کی آپ کو بہت خوشی ہوگی۔“ ان کا لہجہ
بہت شائستہ تھا اور اذان کی اماں کو بہت خوش ہو رہی تھی کہ
ان کی بیٹی نے ایک اچھے ماحول میں پرورش پائی تھی۔

”اسلام علیکم!“ طوبی نے لاؤنج میں داخل ہوتے
ہوئے بلنڈا واڑ میں کہا۔

READING
Section

پرسکون ہوتے ہوئے، کاشان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی جواب کا منتظر تھا۔

”طوبی کا یوں کا فنکشن سہا ہی میں جا رہے ہیں۔“ کاشان کے لیوں پر پہلی مسکراہٹ ملی بھر کو تھکی پڑی گئی مگر پھر ابھرتی۔

”شکریہ اذان! آپ کی بدولت مجھے اپنی غلطی سدھرنے کا موقع ملا۔ نانولی بہت خوش ہوئیں بہت زیادہ اور انہوں نے میرے لیے ایک کھوٹا بھی ڈھونڈ لیا ہے جس سے وہ مجھ پر باندھنا جانتی ہیں۔ میں نے بھی اب کی بار کوئی تردید نہیں کیا کسی ٹھگلی کا اعتراف نہیں کیا جب ہمارے اپنے ہماری وجہ سے خوش ہوں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے اس کا اعجاز مجھے آج ہوا ہے اذان! اور یہ سہا آپ کی وجہ سے ممکن ہوا صرف آپ کی۔“ کاشان آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا اور اذان نے اس کی کمر تھپتھپائی۔

”اوہ! میں تو ڈر گیا تھا آپ مجھے فون پر بتا دیے تھے میں آپ کو اتر پورٹ پر جوائن کر لیتا۔“ اس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر مسٹر عباہی کے ساتھ اس طرح کے سیمینار اینڈ کرتا تھا۔ اس لیے اسے یہ کوئی نئی بات نہیں لگی وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا کار تک آ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔

”میں نے آپ کی والدہ کو انعام کر دیا ہے۔“ اس کو نمبر ڈائل کرتا دیکھ کر مسٹر عباہی بولے اور اس نے مسکراتے ہوئے کال ڈس کنیکٹ کر دی۔

”اذان! آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟“ ان کا یہ سوال اذان کے لیے غیر متوقع تھا انہوں نے آج تک اذان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی وہ تو سب جانتے تھے پھر وہ اس سے یہ بات کیوں کر رہے تھے اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔

”آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا تھا آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ویسے ان کی یہ خواہش غلط تو نہیں۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔“ انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا۔

”آپ تو جانتے ہیں سر میں.....“ اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔

”میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے اور آپ کی والدہ سے اس کا خاندانہ تعارف بھی کر دیا ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ تو وہ خوش ہوئیں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس سے مل کر بہت خوش

”سرا کوئی مسٹر عباہی آپ سے ملتے سٹے ہیں۔“ اس کی سکرٹری نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور اس کی یہ بات سن کر اذان بہت تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔

مسٹر عباہی اس کے آفس پہلی بار آئے تھے اسی لیے اس کی سکرٹری کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے اسے اپنی جیئر پھونڈ کر یوں بھاگا۔

”پ یہاں سر! مجھے بلوایا ہوتا آپ نے کیوں

ہو گے۔ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔

جھپکائے دیکھ رہا تھا اس خوف سے کہ کہیں پلٹیں جھپکنے پر وہ غائب نہ ہو جائے۔

”مل کر“ اس نے چونک کر کہا۔



”ہاں مل کر کیونکہ آج ہم اسی لڑکی کے سیمینار میں جا رہے ہیں۔ ایک بات اور اس لڑکی کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا ہے کل جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔“ ان کا یہ خری جملہ اذان کی رنگت فنی کر گیا۔ کارڈ رپورٹ پارکنگ میں رک گئی۔ وہ بے جان ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اترے۔ وہ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔

”سیمینار بہت اچھا رہا جیرو!“ انہوں نے حوادنی لہجے میں کہا۔

”بجز اک اللہ و خیر!“ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”جیرو! مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔“ انہوں نے کچھ ٹھہر کر کہا۔

”جی کیسے سر!“ اس نے بہت تابعدارانہ انداز میں کہا۔

”میں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔“ انہوں نے بہت پُر اعتماد لہجے میں کہا۔

”یہ آپ کا فیصلہ ہے اللہ پاک تو مجھے منکوح ہے شاید وہ میرا لہجہ بھی ہی نہیں۔“ اس نے بہت ہارے ہوئے انداز میں سوچا۔

”آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم ہے سر! اور آپ کا کوئی حکم میں ہال ہی نہیں سکتی۔“ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔

”میں نے آپ کا نکاح طے کر دیا ہے اپنے ایک بہت اچھے قابل اور ہونہار اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور وہ بھی کل۔“ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔

سیمینار شروع ہونے میں چند لمبے باقی تھے مسٹر عباسی کے ساتھ وہ ایک راؤنڈ ٹیبل کے گرد لگی چیزز میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اسے وہاں کی ہر چیز سے بے زاری ہو رہی تھی۔ سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا اس کا ایک لڑکی کو چڑھتے ہوئے بلک چاند لیک ٹیوز اور جادو کے ہاتھ سے کا انداز اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی گئیں۔ آج کی میٹریوں سے لے کر میٹریک وہ یہ اندازہ کر چکا تھا کہ وہ کون سی لڑکی ہے جس کی بدولت وہ دائرہ اسلام میں تھا۔ جس کی حیرت روشن نگاہوں نے اس کی روح تک کو بخونخوڑ ڈالا تھا۔ وہی لڑکی دس سال کے طویل عرصہ میں بھی وہ ایک لمبے کے لیے اسے نہ بولا تھا وہی لڑکی۔۔۔۔۔ جیرو عباد۔ اس نے پلٹ کر مسٹر عباسی کو دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر جانا چاہا مگر مسٹر عباسی نے اسے جانے سے روک دیا۔

”مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن پہلے میں اپنی اماں اور بہن کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔“ اس نے قدرے مستحکم لہجے میں کہا۔

”اس انسان سے مل کر جیرو آپ کو اپنا ہر مشاغل جائے گا۔ وہ وہی انسان ہے جیرو! جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ کو ڈھونڈنے اور آپ کا انتظار کرنے میں گزارا ہے آپ اس کا اجر ہیں جیرو اور یہ فیصلہ سالوں میں طے ہوا ہے۔“ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس کے پیچھے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے حیرت زدہ انداز میں ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور پلٹ کے دیکھا مگر پلٹنے کے بعد وہ حیرت کے سبب پلٹیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اذان اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا پر نور آنکھیں روشن چہرہ اور یوں پر پگھلی مانوس مسکراہٹ اس رات اس نے خواب میں محن حرم میں جان کو دیکھا مگر آج وہ جان نہیں ہو سکتا تھا اس کے ماتھے پر نماز کا گہرا نشان تھا

”یہ تمہارا جیرو کا نہیں بلکہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ کیا تم اس کے فیصلے کو رد کرنے کی ہمت رکھتے ہو۔“ انہوں نے مدغم لہجے میں کہا اور وہ فنی میں سر ہلانا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر جیرو پر جا کر گئیں۔ کیا وہ واقعی وہاں بھی یا آج بھی وہ کسی خواب کی کیفیت میں تھا۔ وہ جتنا پلٹیں

جو ماتھے پر بکھر۔ یہاں لوں کے درمیان سے واضح ہو رہا تھا۔
 ”احمد اذان امیر ایک اور آپ جیسا قابل اور تابعدار
 اسنوڈنٹ۔“ چچے سے مسٹر عباسی کی آواز بھری گئی۔
 ”احمد اذان“ اس کے منہ سے حیرت کے سبب نکلا۔



وہ ٹھیل سے قریب لگائے اپنا کوٹ ہاتھوں میں لیے
 کھڑا تھا جب کہ ”بیرہ“ دوسری ٹھیل کی ایک جینٹر پر سر
 جھکائے چند قدم کے فاصلے پر پہنچی تھی۔
 ”آپ نے اسلام کب قبول کیا؟“ ”بیرہ نے سر
 جھکائے جھکائے پوچھا مگر وہ خاموش رہا اس کی خاموشی پر
 ”بیرہ نے سر اٹھایا شاید وہ اس کا اپنی طرف متوجہ ہونے کا
 ہی خنجر تھا اس لیے فوراً بولا۔

”دس سال قبل آپ کے جانے کے بعد“ اس نے
 وضاحت بھی پیش کی: ”بیرہ“ آج پھر کسی غلطی کا شکار نہ
 ہو۔ اب دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے اور یہ خاموشی طویل
 ہو گئی بلکہ خزانہ نے اس خاموشی کو توڑا۔

”آپ کہاں چلی گئیں تھیں ”بیرہ“ اس نے آپ کو
 بہت ڈھونڈا تا کہ میں آپ سے اپنے غلط رویے کی معافی
 مانگ سکوں۔ اگر اس دن آپ نے مجھے ٹھکرایا نہ ہوتا تو میں
 کبھی اسلام کو نہ سمجھ پاتا۔“ ”مسلمان ہونے کا صحیح مقصد نہ سمجھ
 پاتا۔“ اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔

”جب آپ نے مجھے پھونپھون کے گھر چھوڑا تھا تو وہاں
 کوئی نہ تھا مگر پرتالا لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں
 کیا کروں اچانک ہی میرے ذہن میں اپنی ایک کالج
 میٹ کا خیال آیا اور میں اس کے گھر چلی گئی پھر دن وہیں
 رہی پھر اسی کے توسط سے میں نے ایک ہاسٹل میں کرا
 لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔ ایک اسکول میں جا بل گئی وہ
 اسکول ایک این جی اے کے فٹ چل رہا تھا اس این جی اے کی
 ٹرینی اسکول کی پرنسپل تھیں۔ انہوں نے مجھے این جی اے
 جوائن کرنے کا کہا اور لوگوں میں اسلام کے حوالے سے

READING

Solution

نے اس این جی اے کے ساتھ کام کیا۔ اس ایک سال میں
 میں اتنی اشتیاق ہو گئی تھی کہ ماں کو اپنے پاس بلا لیتی اور
 ایک سوچ کر میں نے اپنے ایک اسٹنٹ کو اپنے گھر بھیجا
 مگر اس نے آ کر مجھے بتایا کہ ”ہاں“ گھر پر کسی اور نے
 قبضہ کر لیا ہے اور میری ماں کا کہنا پتا نہیں۔ اس خبر نے
 مجھے حد درجہ جل برداشتہ کر دیا تھا اور اسی لیے میں نے خود
 کو مزید مصروف کرنے کے لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا
 فیصلہ کیا۔ میں ماسٹرز مکمل نہیں کر پائی تھی اسی لیے بی اے
 کی بنیاد پر میں نے ایم اے میں ایڈمیشن لیا۔ اس کے بعد
 ایم اے ایل کیا اور پھر پی ایچ ڈی۔ پی ایچ ڈی کے دوران ہی
 میری ملاقات مسٹر عباسی سے ہوئی انہوں نے مجھ سے آپ
 کا ذکر کرنا چاہا تھا مگر میں نے آپ کا سنتے ہی انہیں کچھ بھی
 کہنے سے پہلے ہی روک دیا۔ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ
 آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔“ ”بیرہ“ ایک طویل مکالمے کے
 بعد خاموش ہو گئی تھی ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی
 چھا گئی تھی۔

”بیرہ“ اذان نے بہت مددگم لہجے میں اسے پکارا۔
 ”بیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔


”کیا آپ دلی طور پر مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہیں؟“
 میں نے یہ نہیں چاہا کہ آپ محض ایک حکم کی تعمیل کے لیے
 مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔“ اس کا لہجہ اب بھی مددگم
 تھا۔ ”بیرہ“ نے کوئی جواب دینے بغیر سر جھکا دیا وہ انتظار کرنا
 رہا۔ چند منٹ گزر گئے مگر وہ خاموش ہی رہی۔ وہ ٹھیل میں
 سر ہلاتے ہوئے سوچ انداز میں مسکرایا۔

”میں جانتا ہوں آپ کبھی بھی مجھے دل سے قبول نہیں
 کریں گی۔“ ”یہ کہتے ہوئے وہ ٹھیل سے اٹھا اور باہر جانے
 واسطے کھانسی کی طرف قدم بڑھائیے تھے۔

”احمد“ ”بیرہ“ نے چچے سے اسے پکارا۔ اس نے
 پلٹ کے دیکھا ”بیرہ“ کے لبوں پر دل کش مسکراہٹ چھلی
 ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی جانب بڑھلایا
 اذان نے غیر یقینی لگا ہوں سے اس کی جانب دیکھا کیا وہ
 واقعی چاہتی تھی کہ اذان اس کا ہاتھ تھام لے وہ آگے بڑھا

اور سگراتے ہوئے غیرہ کا ہاتھ تھا۔
 ”کیا میں یقین کر سکتا ہوں تم پر؟“ اس نے خوش کن
 لہجے میں دریافت کیا۔
 ”ہاں! تم کر سکتے ہو۔“ غیرہ نے مسکراتے
 ہوئے رضا مندی ظاہر کی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے
 باہر کی طرف بڑھ گیا۔

”رون گھا کرنا سے دیکھا۔
 ”یہ سو غیرہ.....!“ غیرہ کو دہرایا دیکھ کر اسے دھچکا
 ”یہ پچھتاوے کے سو ہیں اذان!“ اس نے اٹکبڑ
 نگاہوں سے اذان کو دیکھا۔
 ”پچھتاوہ.....! مجھ سے نکاح کر کے کیا آپ پچھتاری
 ہیں؟“ اذان کا دل مٹیوں میں آ گیا۔



نکاح کی رسم بہت سادگی سے ادا کی گئی۔ اس میں
 صرف گھر کے لوگ اور اذان کے کچھ قریبی دوست جن
 میں عدیل اور اکاشان شامل ہوئے۔ غیرہ اپنی اماں اور
 عالیا سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس کے دل میں
 اذان کی عزت و درجہ مزید بلند ہو گیا۔ اذان نے بہت
 آہستگی سے دروازہ بجایا اور پھر دروازہ کھول کر اندر
 داخل ہوا۔ وہ آج پہلی بار غیرہ کو بلیک اینڈ وائٹ رنگ
 کے علاوہ کسی اور رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ لال رنگ کے
 سوٹ میں اور وہ بھی بنا چادر ہاریک اور نہیں کام کے
 ڈونٹے کے پیچھے سے اس کے سیاہ بال اس کی پشت پر
 پھیل کر اسے مزید دل کش بنا رہے تھے۔

”ہاں میں پچھتاری ہوں۔“ اس کا انداز بھی ویسا ہی
 تھا اذان کا چہرہ بالکل مرجھا گیا۔
 ”ایک سچ فیصلہ لینے میں میں نے اتنے سال ضائع
 کر دیئے اس لیے مجھے پچھتاوا ہورہا ہے۔“ غیرہ نے اپنی
 بات کھل کی اور اذان کی جان میں جان آئی۔
 ”غیرہ.....“ اس نے مصنوعی حلقی سے کہا۔
 ”آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اذان!“ غیرہ نے
 اس کا بازو تھاما اور اپنا سر اس کے کندھے پر تکا دیا۔
 ”لیکن یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگی۔“ اس نے
 اپنی بات جاری رکھی۔
 ”سب تو مجھے اس بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا کہ میں
 واقعی ایک اچھا انسان ہوں کیونکہ یہ آپ نے کہا ہے ورنہ
 بہت سوں نے کہا مگر میں نے نہیں مانا۔“ اذان نے
 سگراتے ہوئے کہا اور غیرہ بھی مسکرائی۔

وہ پائیں بارغ میں نکلنے والی ہالکونی کی رنگ سے
 ایک لگائے کھڑن تھی۔ دروازہ کی جانب اس کی پیچھے
 شاید اسی لیے اذان اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو
 نہیں دیکھ پایا۔ اس وقت اذان کے کانوں میں ایک ہی لطم
 گردش کر رہی تھی۔

”آپ کو پتا ہے غیرہ! میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک
 ساتھ محض حرم میں خاتہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہوں اور
 اپنے رب کے روبرو سجدہ ریز ہوں اور ہم بہت چھو وہاں
 ہوں گے۔“ اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ غیرہ کے
 ہاتھ پر رکھا۔
 ”ان شاء اللہ.....!“ غیرہ نے آنکھیں بند کرتے
 ہوئے کہا۔

دیکھنے کو جو تمہیں اہتمام کرتے ہیں
 زمیں سے جھک کر سناہے نکام کرتے ہیں
 تو آؤ آج سے ہم اک کام کرتے ہیں
 وفا کے نام سبھی صبح و شام کرتے ہیں
 کبھی جو بام پہ فہرے تو چاندک جائے
 غزال دیکھ کر جس کو خرام کرتے ہیں
 یہ اہل دل کی ہستی ہے ہزار گروں کی نہیں
 یہاں لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں
 اذان نے اس کے برابر کھج کر رنگ پر ہاتھ رکھے اور

آج ان کی زندگی ایک پرسکون راہ پر چل پڑی
 تھی جہاں وہ زندگی پھر ایک دوسرے کا ساتھ
 نبھانے والے تھے۔



READING
Section